

بِارْدُوس

قضية التكفير

بین

أهل السنة وفرق الضلال

في ضوء الكتاب والسنّة



طبعه مزيدة ومنقحة

تأليف الفقيه إلى الله تعالى
سعید بن علی بن وهف القحطانی

اردو

قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال
في ضوء الكتاب والسنة

تأليف فضيلة الشيخ / د . سعيد بن علي بن وهف القحطاني حفظه الله تعالى

مسئلہ تکفیر

اہل سنت اور گمراہ فرقوں کے ما بین ایک جائزہ

اردو ترجمہ بقلم:

ابو عبد اللہ عنایت اللہ بن حفیظ اللہ سنبلی مدّنی

مترجم سے رابطہ کے لئے:

Mobile: +91-9773026335 • Tel.: +91-22-25355252

E-Mail: inayatullahmadani@yahoo.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله وحده، والصلوة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:

فإن الشيخ عنایت الله بن حفیظ الله هندی الجنسیة معروف لدی منذ دھر طویل
بسالمة المنهج والمعتقد، وقد كان داعیة (رسمی) في مکتب الجالیات والدعوه والإرشاد بمدینة عنیزة
بالمملکة العربیة السعودیة، ثم انتقل للدراسة في الجامعة الإسلامیة كلیة الحدیث الشریف وتخرج
بتقدیر ممتاز، ولعمرتی بسالمة منهجه أذنت له بتراجمة أي کتاب من کتبی يرغبه في ترجمته، وقد
ترجم لي إلى الان خمسة عشر کتابا، راجعنا منها أربعة عشر کتابا فوجدناها مترجمة ترجمة
سلیمة على منهجه أهل السنة والجماعۃ.

وأوصي من يرى تزکیتی هذه أن يجعل الشیخ عنایت الله محل الثقة فإنه كذلك، سواء
كان ذلك في الترجمة أو غيرها من الأعمال، لأمانته، وصدقه، وسلامة معتقده، هكذا أحسبه والله
حسبيه ولا أزكي على الله أحدا. وصلى الله على نبینا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعین.

قاله وکتبه الفقیر إلى الله تعالیٰ

د. سعید بن علی بن وھف القحطانی

١٤٣١/٥/١١

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

من سعید بن علی وھف القحطانی إلى الأخ الشیخ عنایت الله بن
حفیظ الله سلمه الله تعالیٰ
السلام عليکم ورحمة الله وبرکاته أما بعد
خارجو إرسال كل کتاب تترجمونه من کتبی
إلى موقع دار الإسلام بعد مراجعته، مما ينشر في هذا
الموقع المبارك، والله أرسل أن يجعل ذلك في موزعين
حسناً لكم وجزاكم الله خيراً.
والسلام عليکم ورحمة الله وبرکاته.

أضطرت وصلیت في الدار
١٤٣١/٥/١١

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

من سعید بن علی وھف القحطانی إلى الأخ الشیخ عنایت الله
بن حفیظ الله سلمه الله تعالیٰ.

السلام عليکم ورحمة الله وبرکاته أما بعد:

فارجو إرسال كل کتاب تترجمونه من کتبی إلى موقع دار الإسلام
بعد مراجعته، حتى ينشر في هذا الموقع المبارك، والله أرسل أن يجعل ذلك في
موازين حسناتکم وجزاکم الله خيراً.

والسلام عليکم ورحمة الله وبرکاته

أخوك ومحبک في الله

د. سعید بن علی بن وھف القحطانی

١٤٣١/٥/١١

عرض مترجم

نبی رحمت ﷺ نے مجرموں طور پر گزشتہ امتوں کی طرح اپنی امت کے بھی تہذیفروں میں تقسیم ہو جانے کی پیشین گوئی فرمائی تھی اور خبر دی تھی کہ ان میں سے صرف ایک جماعت نجات یافتہ اور مستحق جنت ہوگی، ارشاد ہے:

”یہود اکہتر فرقوں میں تقسیم ہوئے، ان میں سے ایک جنتی ہے اور ستر جہنمی، اور نصاریٰ (یوسائی) بہتر فرقوں میں تقسیم ہوئے، ان میں سے صرف ایک جنتی ہے اور اکہتر جہنمی، اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد ﷺ کی جان ہے یقیناً میری امت تہذیفروں میں تقسیم ہوگی، ان میں سے صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا، اور بہتر فرقے جہنمی ہوں گے، دریافت کیا گیا، اے اللہ کے رسول ﷺ وہ جنتی فرقہ کونسا ہے؟ آپ نے فرمایا: ”جماعت“ (۱)۔

جامع ترمذی کی ایک روایت میں ہے کہ ”صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول ﷺ وہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا: ”ما أنا عليه وأصحابي“ (۲)۔
جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں (۳)۔

(۱) صحیح منسن ابن ماجہ، از علامہ البانی / ۲۶۷۲، صحیح البخاری / ۳۵۷۸، صحیح الجامع الصغری / ۲۷۷۴۔

(۲) جامع ترمذی، ۲۶/۱۵، حدیث (۲۲۳)۔

(۳) نبی کریم ﷺ کے ارشاد کردہ انہی ناموں کی بنا پر اس جماعت کو ”اہل سنت و جماعت“ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، یعنی تاب و سنت اور جماعت سلف صحابہ و تابعین و ائمہ محدثین کے منہج پر قائم جماعت، واضح رہے کہ اس سے بر صیغہ کی وہ جماعتیں مراد نہیں ہیں جو ایمان و مقاومت نیز اعمال کے بغیر مسائل میں تاب و سنت اور منہج سلف کی صریح خلافتوں کے باوجود یہ علم خیلیش اپنے آپ کو ”اہل سنت“ کہتی ہیں، بلکہ اس سے امت کے دو افراد مارہیں جزوی و عمل دونوں اعتبارے اپنے تمام مسائل میں واقعی سنت رسول ﷺ اور جماعت صحابہ کے اسودہ منہج پر قائم ہوں خواہ کہیں بھی ہوں اور کسی بھی نام سے جانے جاتے ہوں۔ (مترجم)

بھی تال نہیں کرتی ہے بلکہ اس ضمن میں بعض کم مایہ علماء اور طلبا بھی شامل کئے جاسکتے ہیں۔
 پانچ قریب میں اور عصر حاضر میں بھی بر صغیر اور اسی طرح بعض دوسرے ملکوں کی بعض
 جماعتیں خارج کے نقش قدم پر چلتے ہوئے علماء و حکام اور عوام کی تکفیری مہم کا محاذ منبعاً لے ہوئی
 ہیں، اور افسوس کن بات یہ ہے کہ ان میں سے بعض جماعتیں ”الٹا چور کو تو ال کوڈائٹ“ کے
 برصداق اس جماعت حق ”اہل سنت و جماعت“ ہی کو بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ ”خارجیت
 جدیدہ“ کے نام سے موسم کرتی ہیں اور طرح طرح کے الزامات و اتهامات سے اس کے رخ
 زیبا کو اندر کرنے کی ناپاک کوششیں کرتی ہیں!

ع خرد کا نام جنوں رکھ دیا جنوں کا خود
 جو چاہے آپ کا حسن کر شہ ساز کرے

ایسے نازک اور سگین حالات میں ضروری ہے کہ کتاب و سنت اور سیرت سلف کے ٹھوں
 دلائل و برائیں کی روشنی میں تکفیر کے موضوع کی وضاحت کی جائے اور اس باب میں گراہ فرقوں
 کے نظریات اور ان کے دلائل کے جائزہ کے ساتھ ساتھ اہل سنت و جماعت کا صحیح موقف آشکارا
 کیا جائے نیز تکفیر کے اصول و ضوابط، شرائط، موانع، اس کی علیحدگی اور تکفیری وغیر تکفیری اعمال
 و عقائد کو واضح اور سلیمانی انداز میں بیان کیا جائے تاکہ مسلمانوں کی تکفیر اور جنت سے محروم کئے
 جانے کے اس سلسلہ کا سد باب ہو سکے۔

پیش نظر کتاب اسی سلسلہ کی ایک اہم کڑی ہے جس میں فضیلۃ الشیخ سعید بن علی قحطانی
 حفظہ اللہ نے نہیت آسان اسلوب اور سلیمانی پیرائے میں اس موضوع کی وضاحت کی ہے اور اسے
 حسب عادت کتاب و سنت کے نصوص اور سلف کے آثار سے آراستہ کیا ہے اور ساتھ ہی بالطل فرقوں
 کے نظریات اور ان کے دلائل (درحقیقت شبہات) کا ذکر کیا ہے اور ٹھوں دلائل کی روشنی میں ان کی
 تردید کی ہے، کتاب اپنے اختصار کے باوجود اس باب کے جملہ مسائل پر محیط ہے۔
 حالات کی نزاکت کے پیش نظر رقم کے ذہن میں کتاب کو اردو جامہ پہنانے کا داعیہ پیدا

نیز آپ ﷺ نے اس جماعت کا وصف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

”لَا تَنْزَال طَائِفَةً مِّنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضْرِهُمْ مِّنْ خَذْلِهِمْ، حَتَّى
 يَأْتِي أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ“ (۱)۔

میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر غالب رہے گی، ان کی مدد سے ہاتھ کھینچنے
 والے انہیں کوئی ضرر نہ پہنچ سکتیں گے، بیہاں تک کہ اللہ کا حکم آجائے گا اور وہ ویسے ہی
 غالب رہیں گے۔

یہ جماعت امت کے تمام فرقوں اور جماعتوں کے درمیان عقائد عبادات اور اعمال کے
 جملہ مسائل میں وسط اور معتدل ہے نیز افراط و تفریط اور غلو پسندی و جفا کاری سے دور اپنے تمام
 تر مسائل میں ملا تھب و ہب و ہب و ہب کتاب و سنت کے میتھم دلائل اور فہم سلف صحابہ و تابعین اور
 ائمہ سنت کو مرجع تجویز ہے اور اس طرح دیگر جماعتوں سے ممتاز قرار پاتا ہے۔

تکفیر (کافر قرار دینا) کا موضوع اہل سنت و جماعت اور گراہ فرقوں کے مابین ایک اہم اور
 معركۃ الاراء موضوع رہا ہے، اس کی وضاحت ہی درصل زیر نظر کتاب کا موضوع ہے۔

یہ موضوع بایس طور نہیت اہمیت کا حامل ہے کہ یہ ایک سگین اور خط ناک موضوع ہے جس
 میں امت کی مختلف ٹولیاں جادہ حق سے اخراج کا شکار ہوئیں، بعض فرقے افراط کا شکار ہوئے
 اور بعض تفریط کے، لیکن جملہ مسائل کی طرح اس مسئلہ میں بھی حق اہل سنت و جماعت کے حصہ
 میں آیا، جیسا کہ کتاب کے صفحات پر آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔

موضوع اور کتاب کی اہمیت کا دوسرہ اہم پہلو یہ ہے کہ تکفیر کا ظاہرہ موجودہ دور میں بڑی
 شدت سے عام ہو رہا ہے اور سماج کے عوام کی ایک بڑی تعداد اعلیٰ کے سبب یا جذب انتیت کے
 غلبہ کے باعث یا اسی طرح خوارج یا امت کے بعض فرقوں اور جماعتوں کے بے بنیاد نظریات
 کے بہکاوے میں آ کر کسی بھی مسلمان کو ہر چھوٹے بڑے گناہ کے سبب کافر قرار دینے میں ذرا

(۱) صحیح مسلم ۶/۱۵۲۳، حدیث (۱۹۲۰)۔

ہوا، مجھے امید ہے کہ یہ کتاب ان شاء اللہ اردو زبان میں اپنے نوعیت کی منفرد کتاب ہوگی اور اس سلسلہ میں بہت سے شبہات اور اشکالات کے ازالہ میں مفید اور کارامہ ثابت ہوگی۔

رقم کی یہ ساقوں طالبعلمانہ کاوش ہے جو اللہ کی توفیق سے زیر طبع سے آ راستہ ہوئی ہے، میں سب سے پہلے اپنے اللہ ذوالجلال کا شکر یاد کرتا ہوں جس کی توفیق اور مدد سے کتاب کا ترجمہ پایہ میکمل کو پہنچا، اس کے بعد اپنے والدین بزرگوار کا شکر یاد کرتا ہوں جن کی انہک تلیسی و تریتی کوششوں کی بدولت دین اسلام کی اونی سی خدمت کا شرف حاصل ہوا، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا و عینی کی بھلاکیوں سے نوازے اور اسے ان کے لئے صدقۃ جاریہ بنائے، اسی طرح اپنی الہیاءں خانہ اسائدہ کرام نیز جملہ معاونین کا شکر یاد کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزاے خیر سے نوازے۔ (آمین)

بعدہ فاضل بھائی جناب فضیلۃ الشیخ عبد الہادی عبدالخالق مدفن حفظہ اللہ (داعیہ و مترجم مکتب توعیۃ الجالیات بالاحسان) کا شکر یاد کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں جنہوں نے اپنی تمام ترمصروفیات کے باوجود انہائی شرح صدر کے ساتھ کتاب پر نظر ثانی کی اور صحیح فرمائی، فخر اہل اللہ خیر۔

اخیر میں تمام اہل علم اور طالب اہل علم سے میری پر خلوص درخواست ہے کہ اگر کتاب میں کسی بھی قسم کی فروگذشت نظر آئے تو بکرا و اتنا ضرور مطلع فرمائیں اور اپنے مفید شوروں سے نوازیں۔

اللہ عزوجل سے دعا ہے کہ اس کتاب کے ذریعہ اردو دل حلقہ کو فائدہ پہنچائے نیز اس کے مؤلف، مترجم، صحیح ناشر اور جملہ معاونین کو اخلاص قول و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مدینہ طیبہ: ابو عبد اللہ/عایت اللہ بن حفیظ اللہ سنابل

۰۵۰۸۶۷۲۸۵۹/شوال بروز جمعرات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمہ طبع دوم

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّورِ
أَنفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مِنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلٌّ لَّهُ، وَمَنْ يَضْلِلُ فَلَا
هَادِيٌ لَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ
مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ وَمَنْ
تَبَعَهُمْ بِإِيمَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا، أَمَّا بَعْدُ :
”مسَلَّهٖ تَكْفِيرٌ“ کے بیان میں یہ ایک مختصر رسالہ ہے جس کے اندر میں نے اس
عظیم اور نازک مسلَّه میں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بیان کیا ہے اور ان کے
مخالفین، گمراہ فرقوں پر ان کی تردید کی وضاحت کی ہے۔
میں نے اس بحث کو تین ابواب میں تقسیم کیا ہے اور ہر باب کے تحت حسب
ذیل فصلیں ہیں:

میں نے اس بحث میں اہل سنت و جماعت کا مٹھ اختریار کیا ہے، جو کچھ اس میں صحیح اور درست ہے وہ احسان فرمانے والے اللہ واحد کی جانب سے ہے اور جو غلط ہے وہ میری اور شیطان کی جانب سے اللہ اور اس کے رسول ﷺ اس سے بری ہیں، میں اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ اسے مبارک، خالص اپنے رخ کریم کے لئے، اور اس کے مولف، قاری، اور طالع و ناشر کو نعمت بھری جنتوں سے قریب کرنے والا بنائے، اور اس سے مجھے میری زندگی میں اور مرنے کے بعد نفع پہنچائے اور جس شخص تک بھی یہ کتاب پہنچا اس کے لئے نفع بخش بنائے، وہ سب سے بہتر ذات ہے جس سے سوال کیا جاتا ہے اور انہائی کریم ہے جس سے امید وابستہ کی جاتی ہے، وہی ہمارے لئے کافی اور بہترین کار ساز ہے اور تمام تعریفیں اللہ دونوں جہاں کے رب کے لئے لاکن وزیبا ہیں۔

وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آله واصحابہ، ومن
تبعہم باحسان الی یوم الدین.

مؤلف

بروز ہفتہ، مطابق ۱۴۳۶/۱۲/۲۲

☆ پہلا باب: تکفیر کے چند اصول، ضوابط اور مواضع

پہلی فصل: مسلمانوں کے امراء کے خلاف بغاوت کی حرمت اور بھلانی میں ان کی اطاعت کا وجوب۔

دوسری فصل: تکفیر کے چند اصول۔

تیسرا فصل: تکفیر کے ضوابط۔

چوتھی فصل: تکفیر کے مواضع۔

پانچویں فصل: تکفیر کی خطرناکی۔

چھٹی فصل: بعض تعریفات و مفہایم۔

☆ دوسرا باب: تکفیر کے باب میں اہل سنت و جماعت کا موقف

پہلی فصل: اہل سنت کا موقف اور ان کی دلیل۔

دوسری فصل: کفر کی قسمیں اور خطرناک تکفیری امور۔

☆ تیسرا باب: اہل قبلہ کی تکفیر میں لوگوں کے موافق اور ان کا جائزہ

پہلی فصل: تکفیر کے باب میں لوگوں کے موافق۔

دوسری فصل: آراء کا جائزہ اور دلیل کی روشنی میں حق کا بیان۔

پہلا باب:

تکفیر کے چند اصول، ضوابط اور موانع

☆ پہلی فصل: مسلمانوں کے امراء کے خلاف بغاوت کی حرمت اور بھائی میں ان کی اطاعت کا وجوہ۔

پہلا مبحث: بھائی میں سمع و طاعت کا وجوہ۔

دوسری مبحث: مسلم امیر و حاکم کے خلاف بغاوت کی حرمت۔

تیسرا مبحث: حکمت کے ذریعہ و عظی و صحت۔

چوتھا مبحث: مسلم امراء و حاکم کے لئے دعا۔

پانچواں مبحث: ائمہ و امراء کے خلاف بغاوت کرنے والے اور ان کے صفات۔

☆ دوسری فصل: تکفیر کے چند اصول۔

☆ تیسرا فصل: تکفیر کے ضوابط۔

☆ چوتھی فصل: تکفیر کے موانع۔

☆ پانچویں فصل: تکفیر کی خطرناکی۔

☆ چھٹی فصل: بعض تعریفات و مفہوم۔

اس نازک اور پر خطر موضوع کا آغاز کرنے سے پہلے میں کچھ اہم اور بنیادی امور کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں جن کا جاننا اور سمجھنا از حد ضروری ہے، کیونکہ ان باتوں کو سمجھ لینے سے بہت سارے سوالات اور اشکالات ختم ہو جائیں گے اور حق نا سمجھنے والے کے لئے واضح ہو جائے گا، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے:

وَكُمْ مِنْ عَابِ قُولًا صَحِيحًا وَآفْتَهُ مِنْ الْفَهْمِ السَّقِيمِ
 صحیح بات پر عیب لگانے والے بہتوں کی آفت کچھ فہمی ہوا کرتی ہے۔
 یہ باتیں درج ذیل فصلوں میں ہوں گی:

پہلی فصل: مسلمانوں کے امراء کے خلاف بغاوت کی حرمت اور بھلائی میں ان کی اطاعت کا وجوب۔
پہلا مبحث: بھلائی میں سمع و طاعت کا وجوب۔

متعدد دلائل کی روشنی میں مسلمانوں کے امراء و فائدین کی اطاعت

بھلائی میں واجب ہے، چند دلائل حسب ذیل ہیں:

(۱) اللہ عزوجل کا ارشاد ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكَ الْأُمُرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرْدُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تَؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ (۱)

اے مومنو! اللہ کی اطاعت کرو اور رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اطاعت کرو اور تم میں سے اختیار والوں کی، پھر اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے، یہ بہتر ہے اور باعتبار انجام کے بہت اچھا ہے۔

”ولاۃ الامر“ سے مراد علماء، حکام اور امراء ہیں (۲)۔

= وفتاویٰ ابن تیمیہ، ۱/۱۵۵ و ۲/۲۸۰، و الشوعلی بن نعیم علی الفیض، ۲۳۷/۱۵۱۔

(۱) فتاویٰ ابن تیمیہ ۳۵/۱۶، ۱۷، نیز اولاد امری کی اطاعت کے بارے میں آں رحمہ اللہ کے قول کے خلاصہ اور اس سلسلہ میں حوالہ جات کے لئے ملاحظہ کریں، ۲۰/۳۷۔

(۱) سورۃ النساء: ۵۹۔

(۲) دریکھتے: تفسیر امام ابن حجر طبری، ۸/۳۹۷، تفسیر قرطبی، ۵/۲۶۱، تفسیر ابن کثیر ۱/۵۱۹۔

شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت ہر ایک پر واجب ہے اور امراء و حکام کی اطاعت بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اطاعت کا حکم دیا ہے، لہذا جو اللہ واسطے ان کی اطاعت گزاری کر کے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بجالائے اس کا اجر و ثواب اللہ کے ذمہ ہے اور جو ان کی اطاعت اسی قدر کرے جس قدر اسے ان سے مال اور ولایت (عہدہ و منصب) حاصل ہوتی ہے، چنانچہ اگر وہ دیں تو ان کی اطاعت کرے اور اگر نہ دیں تو ان کی نافرمانی کرے، تو ایسے شخص کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے“ (۱)۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ ”ولایت“ (امارت اور عایا کی ذمہ داری کا بوجھ) ایک بہت بڑی مہم اور عظیم امانت ہے، اسی لئے نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”یا عبد الرحمن لا تسأل الإمامة فإنك إن أعطيتها عن

مسئلة و كلت إلیها، وإن أوتیتها من غير مسئلة أعت
علیها“ (۱)۔

اے عبد الرحمن! امارت کا سوال نہ کرو، کیونکہ اگر وہ تمہیں مانگے پر
دی جائے گی تو (ساری ذمہ داری) تمہیں ہی سونپ دی جائے گی
اور گر بغیر مانگے دی جائے گی تو اس پر تھاری مدد کی جائے گی۔

اسی عظیم اہمیت کے پیش نظر آپ ﷺ نے فرمایا ہے:
”إِنَّا وَاللَّهِ لَا نُولِي عَلَى هَذَا الْعَمَلِ أَحَدًا سَأَلَهُ، وَلَا أَحَدًا
حَرَصَ عَلَيْهِ“ (۲)۔

اللہ کی قسم! ہم کسی مانگنے والے یا لاچی شخص کو اس کام کی ذمہ داری
(ولایت و امارت) نہیں دیتے۔

نیز جب ابوذر رضی اللہ عنہ نے آپ سے عرض کیا کہ: اے اللہ کے رسول

(۱) صحیح بخاری، کتاب الایمان والذن و ر، باب ﴿لَا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾،
۷/۲۷۵، حدیث (۶۶۲۲)، مسلم، ۳/۱۳۵۶، حدیث (۱۲۵۲)۔

(۲) صحیح مسلم، ۳/۱۳۵۶، حدیث (۱۷۳۳)، نیز دیکھئے: صحیح بخاری، حدیث (۱۵۰)۔

صلی اللہ علیہ و سلی اللہ علیہ و سلی اللہ علیہ و سلی اللہ علیہ! کیا آپ مجھے عامل (گورنر) نہ بنائیں گے؟ تو آپ ﷺ نے اپنے
دست مبارک کو ابوذر رضی اللہ عنہ کے کندھے پر مارا اور فرمایا:

”يَا أَبَا ذِرٍ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، وَإِنَّهَا يَوْمُ الْقِيَامَةِ
خَرْزٌ وَنَدَامَةٌ إِلَّا مَنْ أَخْذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَى الَّذِي عَلَيْهِ
فِيهَا“ (۱)۔

اے ابوذر! تم کمزور ہو اور یہ ایک امانت ہے، یہ قیامت کے روز
رسوائی اور ندامت کا سبب ہو گی سوائے اس شخص کے جس نے اسے
اس کے حق کے ساتھ لیا اور اس سلسلہ میں اپنے اوپر واجب حق کو
ادا کیا۔

یہ حدیث پاک اس بات کی تاکید کرتی ہے کہ اللہ کی اطاعت
کرتے ہوئے مسلمانوں کے امراء و حکام کی اطاعت اور اس عظیم کام
میں ان کا تعاون واجب ہے، کیونکہ یہ ان پر ایک عظیم بوجھ اور بہت
بڑی امانت ہے۔

(۱) صحیح مسلم، ۳/۱۳۵۷، حدیث (۱۸۲۵)۔

ومنشطک و مکرھک^(۱)، وأثرۃ^(۲) علیک^(۳)۔
 تم پر آسانی و پر یشانی، خواستہ نہ خواستہ اور تمہیں دنیوی حقوق سے نظر
 انداز کئے جانے کی (الغرض ہر) حالت میں سمع و طاعت واجب
 ہے۔

(۱) ”فِي عَسْرَكَ وَيَسِّرَكَ“ علماء نے کہا ہے کہ اولو الامر کی اطاعت دشوار اور نفس پر گراں گزرنے
 والے امور میں بھی واجب ہے، بشرطیکہ معصیت نہ ہو، اگر معصیت ہو تو کوئی سمع و طاعت نہیں، جیسا کہ
 نبی کریم ﷺ نے بقیہ احادیث میں اس کی صراحت کی ہے، لہذا اولو الامر کی اطاعت کے وجوہ کے
 باب میں یہ مطلق احادیث ان احادیث پر مgomول کی جائیں گی جن میں اس بات کی صراحت مذکور ہے
 کہ گناہ و معصیت کے کاموں میں ان کی سمع و طاعت نہیں ”لَا طاعة لمخلوق في معصية
 الخالق“ (خالق کی معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں) شرح امام نووی ۱۲، ۳۶۵، ۳۶۶۔

(۲) ”وَأَثْرَةً عَلَيْكَ“ معنی یہ ہے کہ دنیوی امور میں تمہیں نظر انداز کر کے اپنی ذات کو ترجیح دی
 جائے، یعنی اگر امراء و حکام دنیوی امور میں اپنے لئے اختصاص برتنیں اور تمہیں اپنے حقوق سے محروم
 کر دیں تب بھی تم ان کی سنو اور اطاعت کرو، شرح نووی ۱۲، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷۔
 فرماتے ہیں: ”یہ حدیثیں تمام حالات میں سمع و طاعت کی ترغیب کے بارے میں ہیں، اس کا سبب
 مسلمانوں کی اجتماعیت ہے، کیونکہ اختلافات ان کی دینی و دنیوی ہر پہلو سے ان کے حالات کی خرابی کا
 سبب ہیں“ شرح نووی ۱۲، ۳۶۵۔

(۳) صحیح مسلم، کتاب الامارہ، باب وجوب طاعة الامراء فی غیر معصية الله و تحريمها فی المعصية،
 ۸/۳، حدیث (۱۸۳۲)، صحیح مسلم، ۳۶۶/۳، حدیث (۱۸۳۵)۔

(۲) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم ﷺ سے بیان
 کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:
 ”من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى
 الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري
 فقد عصاني“ (۱)۔

جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے
 میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے میرے
 امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میرے
 امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔

(۳) انہی سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے
 فرمایا:
 ”عَلَيْكَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِي عَسْرَكَ وَيَسِّرَكَ“

(۱) صحیح بخاری، کتاب الاحکام، باب قول اللہ تعالیٰ: ﴿أطِيعُوا اللَّهَ وَأطِيعُوا الرَّسُول﴾،
 ۸/۳، حدیث (۱۸۳۲)، صحیح مسلم، ۳۶۶/۳، حدیث (۱۸۳۵)۔

(۲) ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں:

”إن خليلي أو صاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبداً مخدع الأطراف“ (۱)۔

میرے خلیل (جگری دوست) نے مجھے وصیت فرمائی ہے کہ میں سنوں اور اطاعت بجالاؤں اگرچہ (میرا امیر) دوست و پابریدہ (ہاتھ پیر کٹا) غلام ہی کیوں نہ ہو۔

(۵) امام الحصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو وجہة الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے سنایا:

”ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطعوه“ (۲)۔

اگر کوئی غلام بھی تمہارا امیر بنادیا جائے جو اللہ کی کتاب سے تمہاری قیادت کر رہا ہو تو اس کی باتیں سنوں اور اطاعت کرو۔

(۶) عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:

”علی المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة“ (۱)۔

مسلمان شخص پر چاہت ونا چاہت (ہر حالت) میں سمع و طاعت واجب ہے الایہ کہ اسے نافرمانی کا حکم دیا جائے، چنانچہ اگر اسے نافرمانی کا حکم دیا جائے تو کوئی سمع و طاعت نہیں۔

نیز آپ نے فرمایا:

”لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف“ (۲)۔

(۱) صحیح بخاری، کتاب الاحکام، باب لسمع والطاعة للامام لما لم تكن معصية، ۱۳۷/۸، حدیث ۱۴۲۲ و صحیح مسلم، ۳/۲۹، حدیث (۱۸۳۹)۔

(۲) صحیح بخاری، حدیث (۱۴۳۵)، و صحیح مسلم، ۳/۲۹، حدیث (۱۸۳۰)۔

(۱) صحیح مسلم، ۳/۲۷، حدیث (۱۸۳۷)۔

(۲) صحیح مسلم، ۳/۲۸، حدیث (۱۸۳۸)۔

الا يه کہ تم کھلا ہوا کفر دیکھو جس میں تمہارے پاس اللہ کی جانب سے واضح دلیل ہو۔

(۸) عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، قالوا: يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: "تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم" (۱)۔

میرے بعد باہمی حقوق میں (اپنی ذات اور اپنے اقارب وغیرہ کو) ترجیح اور کچھ ایسے امور ہوں گے جنہیں تم ناپسند کرو گے، صحابہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ہم میں جس پر وہ وقت آئے آپ اسے کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: "تم اپنے اور رسولوں کے حقوق ادا کرو گے اور اپنے حقوق اللہ سے مانگو گے۔

(۱) صحیح بخاری، کتاب المناقب، باب علامات النبوة فی الاسلام، ۲۱۷/۳، حدیث (۳۶۰۳)، صحیح مسلم، ۱۲۷۲/۳، حدیث (۱۸۳۳)، نیز دیکھئے: صحیح مسلم، ۱۲۷۳/۳، حدیث (۱۸۳۲)۔

اللہ کی نافرمانی میں کوئی اطاعت نہیں، اطاعت صرف نیکی اور بھلائی میں ہے۔

(۷) عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ: "ہمیں اللہ کے رسول ﷺ نے بلا یا اور ہم نے آپ (کے ہاتھ) پر بیعت کی، چنانچہ ہم نے جن باتوں پر بیعت کی ان میں سے یہ بات بھی تھی کہ ہم نے اپنی چاہت و ناچاہت، آسانی و پریشانی اور (دنیوی حقوق میں) اپنی ذات پر ترجیح (ہر حالت میں) سمع و طاعت کرنے پر بیعت کی، اور یہ کام اراء و حکام سے اختلاف نہ کریں" (۱)۔

آپ ﷺ نے فرمایا:

"إِلَّا أَنْ ترَوَا كُفَّارًا بِوَاحِدٍ عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بَرهَانٌ" (۲)۔

(۱) اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں "... و على أن نقول بالحق أينما كان لا نخاف في الله لومة لائم" صحیح مسلم، حدیث (۱۷۰۹)۔

(۲) صحیح بخاری، کتاب الفتن، باب "سترون بعدى أموراً تنكرونها" ۱۱۲/۸، حدیث (۷۰۵۲)، و صحیح مسلم، ۱۲۷۰/۳، حدیث (۱۷۰۹)۔

اطاعت کرے، اور اگر کوئی دوسرا آکرامت کے سلسلہ میں اس سے اختلاف اور معارضہ کرے تو اس کی گردان ماردو۔

(۱۰) حدیف رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے:

”یکون بعدی ائمۃ لا یهتدون بهدای ولا یستنون بسنّتی، و سیقوم فیہم رجال قلوبہم قلوب الشیاطین فی جثمان إنس“ قال قلت: کیف أصنع یا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: ”تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرک وأخذ مالک فاسمع وأطع“ (۱)۔

میرے بعد کچھ ایسے ائمہ ہوں گے جو نہ میری ہدایت اپنا میں گے اور نہ ہی میری سنت پر کاربند ہوں گے، اور ان کے درمیان کچھ ایسے لوگ کھڑے ہوں گے جن کے دل انسانوں کے جسموں میں شیاطین کے دلوں کی طرح ہوں گے، فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! اگر مجھے ایسے حالات کا سامنا ہو تو میں کیا

(۱) صحیح مسلم، بہ ۲/۱۳۷، حدیث (۱۸۲۴)۔

(۹) عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما اپنی طویل مرفوع روایت میں بیان کرتے ہیں:

”... فَمَنْ أَحَبَ أَنْ يَرْجِعَ عَنِ النَّارِ وَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ فَلَنْ تَأْتِهِ مُنْيَتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَلِيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ، وَمَنْ بَاعَ إِمَامًاً فَأَعْطَاهُ صَفْقَةً يَدِهِ وَثُمَّرَةً قَلْبِهِ فَلَيُطِعَهُ إِنْ أَسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ آخِرَ يَنَازِعَهُ فَاضْرِبُوا عَنْقَ الْآخِرِ“ (۱)۔

جو اس بات کا خواہاں ہو کہ اسے جہنم سے نجات دیکر جنت میں داخل کر دیا جائے اس کی موت اس حال میں آنی چاہئے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والا ہو، اور لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کرے جو وہ خود اپنی ذات کے لئے پسند کرتا ہے، اور جس نے کسی امام کے ہاتھ پر بیعت کی اور اپنے ہاتھ کی ہتھیلی اور دل کا شمرہ اس کے حوالہ کر دیا تو اسے چاہئے کہ اگر اسے استطاعت ہو تو اس کی

(۱) صحیح مسلم، بہ ۲/۱۳۷، حدیث (۱۸۲۴)۔

کروں؟ آپ نے فرمایا: تم امیر کی سنو اور اطاعت کرو، اگر وہ تمہاری پشت پر ضرب لگائے اور تمہارا مال لے لے تو بھی اس کی سنو اور اطاعت کرو۔

(۱۱) عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں ایک انتہائی بلغ نصیحت فرمائی جس سے دل دہل گئے اور آنکھیں اشکبار ہو گئیں ہم نے کہا: اے اللہ کے رسول ﷺ، گویا یہ رخصت کرنے والے کی نصیحت ہے، اے آپ ہمیں وصیت فرمائیے، آپ نے فرمایا: ”او صیکم بتقوی اللہ ، والسمع والطاعة ، وإن تأمر عليکم عبد، فإنه من يعش منكم بعدى فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالتواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة“ (۱)۔

میں تمہیں اللہ کے تقویٰ اور سمع و طاعت کی وصیت کرتا ہوں

(۱) سنن ابو داؤد، ۲۰۱/۲، و جامع ترمذی، ۵/۲۳۷، و سنن ابن ماجہ، ۱/۱۵، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح سنن ترمذی (۳۴۲/۲) میں صحیح قرار دیا ہے۔

اگرچہ غلام ہی تمہارا امیر کیوں نہ ہو، کیونکہ تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا، اہذا، تم میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو، اسے مضبوطی سے تھام لو، اور اسے دانتوں سے خوب اچھی طرح جکڑ لو، اور اپنے آپ کوئی ایجاد شدہ باتوں سے بچاؤ، اس لئے کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔

علامہ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”رہی مسلمانوں کے امراء و حکام کی سمع و طاعت تو اس میں دنیا کی سعادت ہے، اور اسی سے بندوں کی زندگی میں ان کی مصلحتیں منظم ہوتی ہیں، اور اس سے انہیں اپنے دین کو غالب کرنے اور اپنے رب کی اطاعت میں مدد ملتی ہے“ (۱)۔

شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”متعدد جگہوں پر نبی کریم ﷺ نے جو اللہ کی نافرمانی کے علاوہ میں امراء کی اطاعت، انہیں نصیحت، ان کے فیصلہ اور ان کی تقسیم کے سلسلہ میں صبر، ان کے ساتھ چہاد

(۱) جامع العلوم والحكم، ۲/۷۷۔

لئے بہتری اور عافیت کی دعا کرتے ہیں،^(۱)۔

(۱۲) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:

”من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية (۱)، ومن قاتل تحت راية عممية (۲) يغضب لعصبة، أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة (۳) فقتل

(۱) العقيدة الطحاوية بتعليق سماحة الشیخ عبد العزیز بن عبد الله بن بازر جامد، ص ۲۲، نیز دیکھئے: اصول اہل السنۃ لامام اہل السنۃ احمد بن حنبل شرح تحقیق الولید بن محمد بن نبی، ص ۲۳، شرکتہ ابن تیمیہ، وشرح السنۃ لامام الحسن بن علی البر بہاری، تحقیق خالد بن قاسم المردادی، فقرہ نمبر: ۳۱، ۲۹، ۳۲، ۳۵، ۳۶، ۱۳۸، ۱۵۹۔

(۲) یعنی جالمیت کی موت کی طرح، بایں طور کہ وہ بدظی کی زندگی بر کرتے تھے، ان کا کوئی امام نہ تھا، شرح نووی، ۲۸۱/۱۲، یہ مراد نہیں ہے کہ وہ کافر ہو کر مرے گا، بلکہ وہ گناہ رکھو کر مرے گا، فتح الباری، ۱۳/۷۔

(۳) ”عمیہ“ یعنی پیچیدہ اور غیر واضح جس کی نوعیت واضح نہ ہو، یہ امام احمد اور جہور کا قول ہے، دیکھئے: شرح نووی، ۲۸۱/۱۲۔

(۴) معنی یہ ہے کہ اپنی قوم اور اپنی خواہش نفس کی تعصب میں، دیکھئے: شرح نووی، ۲۸۲/۱۲۔

اور ان کے پیچھے نماز اور اسی طرح دیگر نیکیاں جنہیں وہی انجام دیتے ہیں ان میں ان کی اتباع وغیرہ کا حکم دیا ہے اس کا بیان ہو چکا ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں نیکی اور تقویٰ میں تعاون کے قبل سے ہیں، اسی طرح ان کے جھوٹ کی تصدیق، ان کے ظلم پر مدد اور اللہ کی نافرمانی میں ان کی اطاعت وغیرہ سے جو آپ نے منع فرمایا ہے اس کی بھی وضاحت ہو چکی ہے، کہ یہ ساری چیزیں گناہ اور دشمنی کے کاموں میں تعاون کے قبل سے ہیں،^(۱)۔

دوسرा بحث: مسلمان حاکم کے خلاف بغاوت کی حرمت۔

اماں طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”... ہم اپنے ائمہ و امراء کے خلاف بغاوت جائز نہیں سمجھتے اگرچہ وہ ظلم کریں، نہ ہی ان پر بد دعا کرتے ہیں، نہ ان کی اطاعت سے ہاتھ کھینچتے ہیں، اور ہم ان کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت میں سے فرض سمجھتے ہیں جب تک کہ وہ معصیت کا حکم نہ دیں، اور ان کے

(۱) فتاویٰ شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ۳۵/۲۰، ۲۱۔

فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب بربها
و فاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها^(۱)، ولا يفي لذى
عهد عهده، فليس مني ولست منه^(۲)۔

جو شخص اطاعت سے نکل گیا اور جماعت سے جدا ہو گیا اور مر گیا وہ
جاہلیت کی موت مرا، اور جو شخص گمنام جھنڈا تلنٹرا، عصیت کے
لئے غضبناک ہوا، یا عصیت کی دعوت دی، یا عصیت کی مدد کی اور
قتل کر دیا گیا، وہ جاہلیت کی موت مرا، اور جو میری امت کے
خلاف بغاوت کر کے امت کے ہر نیک و بد کو مارے اور اس کے
مؤمن سے بھی احتراز نہ کرے، اور نہ ہی عہدوں لے کے عہد کو پورا
کرے وہ مجھ سے نہیں میں اس سے نہیں۔

(۱۲) عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ

اللہ علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنًا:

”من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر؛ فإنه من فارق
الجماعة شبراً (۱) فمات فميته جاهلية“^(۲)۔

جو اپنے امیر کی جانب سے کوئی ایسی چیز دیکھے جو اسے ناپسند ہو تو
اسے چاہئے کہ اس پر صبر کرے کیونکہ جس نے جماعت کو ایک
بالشت چھوڑ دیا اور (اسی حال میں) مر گیا، تو وہ جاہلیت کی
موت مرا۔

(۱۳) عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ
علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنًا:

(۱) آپ کا فرمان ”شبراً“ یعنی ایک بالشت سلطان وقت کی نافرمانی اور اس سے جنگ
چھیڑنے سے کنایہ ہے، اور مغارقت یعنی جدا ہونے سے اس امیر کی بیعت کو توڑنا مراد ہے جس کی
بیعت کامل ہو چکی ہو خواہ کسی معمولی شے کے ذریعہ، اسی لئے اس چیز کا کنایہ بالشت کی مقدار سے
فرمایا ہے، کیونکہ ایسا کوئی بھی اقدام ناحن خون ریزی کا پیش خیمہ ہے، دیکھئے: فتح الباری، ۱۳، ۷۔
(۲) صحیح بخاری، ۸/۱۱۲، حدیث (۵۰۵۳)، صحیح مسلم (ذکرہ الفاظ کے ساتھ)، ۳/۷۷،
صحیح بخاری کے الفاظ اس طرح ہیں: ”فانه من خرج من السلطان شبراً مات ميتة
جاهلية“۔

(۱) مفہوم یہ ہے کہ اپنے کام میں احتیاط نہ برتبے نہ ہی اس کے دبال اور انجمام کا رکا اسے کوئی
خوف ہو، شرح نوی، ۱۲/۳۸۳۔

(۲) صحیح بخاری، حدیث (۵۰۵۳)، صحیح مسلم، ۳/۷۶، حدیث (۱۸۳۸)۔

فاقتلوه“ (۱)۔

جو تمہارے پاس اس حال میں آئے کہ تمہارا معاملہ ایک شخص کے ہاتھ پر متعدد ہو وہ تمہاری لاٹھی کو چاک کرنا یا تمہاری جماعت کا شیرازہ منتشر کرنا چاہے اسے قتل کر دو۔

(۱۶) سلمہ بن یزید عفی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ! اگر کچھ ایسے لوگ ہم پر امیر بن بیٹھیں جو ہم سے اپنے حقوق مانگیں اور ہمیں ہمارے حقوق سے نظر انداز کر دیں تو آپ نے ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ ﷺ نے اس سے اعراض کیا، انہوں نے دوبارہ پوچھا، آپ نے پھر اعراض کیا، انہوں نے دوسری یا تیسرا مرتبہ آپ سے پوچھا، تو انہیں اشعش بن قیس رضی اللہ عنہ نے کھینچ لیا، تو آپ ﷺ نے فرمایا:

”اسمعوا وأطِيعُوا، فَإِنَّمَا عَلَيْهِم مَا حَمَلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا

(۱) صحیح مسلم، کتاب الامارہ، باب حکم من فرق امر المسلمين وهو مجتبي، ۳/۱۳۸۰، حدیث ۱۸۵۲۔

”من خلع يدأ من طاعة لقي الله يوم القيمة لا حجة له (۱)

ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية“ (۲)۔

جس نے (امیر کی) اطاعت سے ہاتھ کھینچ لیا وہ قیامت کے روز اللہ سے اس حالت میں ملے گا کہ اس کے پاس کوئی جحت نہ ہوگی اور جو شخص اس حال میں مراد کہ اس کی گردن میں کوئی بیعت نہ تھی تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔

(۱۵) عربجہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنًا:

”من أنتاكم وأمركم جميع (۳) على رجل واحد يريده أن يشق عصاكم (۴) أو يفرق جماعاتكم

(۱) یعنی اس کے پاس اپنے فعل کی کوئی دلیل نہ ہوگی اور نہ ہی کوئی عذر ہو گا جو سود مند ہو سکے، شرح نووی ۱۲، ۳۸۳/۱۲۔

(۲) صحیح مسلم، ۳/۲۷۸، حدیث (۸۵۱)۔

(۳) یعنی متذکر اور منقطع ہو۔

(۴) ”يشق عصاكم“ یعنی تمہارا شیرازہ کھیڑے جس طرح پھٹی ہوئی لاٹھی کو جدا کر دیا جاتا ہے، یہ اختلاف کلمہ اور دلوں کی باہمی نفرت سے کنایہ ہے، شرح نووی ۱۲، ۳۸۳/۱۲۔

حملتم“ (۱)۔

سنوا اطاعت کرو، کیونکہ انہیں جو ذمہ داری دی گئی ہے اس کا باز پرس
ان سے ہو گا اور تمہیں جو ذمہ داری دی گئی ہے تم اس کے جواب دہ ہو۔

(۷) ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

اور خوش ہوا اور متابعت کی، صحابہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول
ﷺ! کیا ہم ان سے قبال نہ کریں؟ آپ نے فرمایا: نہیں جب تک
وہ نماز پڑھیں۔

(۸) عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ ﷺ
سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:

”خیار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، ويصلون
عليكم وتصلون عليهم (۱) وشرار أئمتكم الذين
تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعونكم“ قیل: يا
رسول الله أفلأ ننابذهم بالسيف؟ فقال: ”لا ما أقاموا فيكم
الصلاه، وإذا رأيتم من ولايتم شيئاً تكرهونه فاكرهوا
عمله، ولا تنزعوا يدأ من طاعة“ (۲)۔

تمہارے بہتر انہے وہ ہیں جن سے تم محبت کرو اور وہ تم سے محبت

(۱) یعنی وہ تمہارے لئے دعا کریں اور تم ان کے لئے دعا کرو، شرح نووی، ۱۲/۳۸۷۔
(۲) صحیح مسلم، ۱۳۸۱، حدیث (۱۸۵۵)۔

”إنه سيستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن
كـره فقد برـئ ومن أنـكـر فقد سـلم، ولكن من رـضـي
وـتـابـع“ قالـوا: يا رسول الله أـلـا نقـاتـلـهـم؟ قالـ: ”ـلا
ماـصـلـوا“ (۲)۔

عنقریب تم پر کچھ ایسے لوگ امیر مقرر ہوں گے جن کی بعض چیزیں
تمہیں اچھی لگیں گی اور بعض بری، چنانچہ جس نے اسے ناپسند کیا وہ
بری ہوا، اور جس نے انکار کیا وہ محفوظ رہا، سوائے اس کے جو راضی

(۱) صحیح مسلم، ۱۳۷۲/۳، حدیث (۱۸۳۲)۔
(۲) صحیح مسلم، ۱۳۸۱، حدیث (۱۸۵۳)۔

”ينصب لکل غادر لواء يوم القيمة“۔

قیامت کے دن ہر دھوکہ دینے والے کے لئے ایک جہنم انصب کیا جائے گا۔

ہم نے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی بیعت کے تحت اس شخص کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اور میں اس سے بڑھ کر کوئی دھوکہ (۱) نہیں جانتا کہ کسی شخص کے ہاتھ پر اللہ اور اس کے رسول کی بیعت کے تحت بیعت کی جائے اور پھر اس سے جنگ چھیڑ دی جائے، اور میں نہیں جانتا کہ اس مسئلہ میں تم میں سے کسی نے (ان سے) ہاتھ کھینچایا بیعت کی مگر یہ کہ فیصلہ میرے اور اس کے درمیان تھا (۲)۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”اس حدیث میں اس امام کی اطاعت کے واجب ہونے کا بیان ہے جس کی بیعت منعقد ہو چکی ہو نیز اس

(۱) ایک دوسری روایت میں: ”إِنَّمَا أَعْظَمُ الْغَدَرِ بَعْدِ الْاشْرَاكِ بِاللَّهِ أَنْ يَبَايعَ رَجُلًا... الْحَدِيثُ“ کے الفاظ ہیں، دیکھئے: فتح الباری، ۱/۱۳، ۷۴۔

(۲) صحیح بخاری مع فتح الباری، ۱/۱۳، ۲۸، حدیث (۱۱۱۷)۔

کریں، وہ تمہارے لئے دعا کریں اور تم ان کے لئے دعا کرو، اور تمہارے بدترین ائمہ وہ ہیں جن سے تم بغض رکھو اور وہ تم سے بغض رکھیں اور تم ان پر لعنت کرو اور وہ تم پر لعنت کریں، عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول! کیا ہم انہیں تھنخ نہ کر دیں؟ تو آپ نے فرمایا: نہیں، جب تک وہ تمہارے درمیان نماز قائم کریں (ہرگز ایسا نہ کرنا)، اور جب تم اپنے امراء سے کوئی ایسی چیز دیکھو جو تمہیں ناپسند ہو تو اس کے عمل کو ناپسند کرو اور اس کی اطاعت سے ہاتھ نہ کھینچو۔

(۱۹) نافع رحمہ اللہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب اہل مدینہ نے یزید بن معاویہ رحمہ اللہ کی بیعت توڑ دی تو حضرت عبد اللہ بن عمر نے اپنے متعلقین (۱) اور اولاد کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنائے:

(۱) ”خشمه“، اخشمہ کے معنی عصہ اور قرابت دار کے ہیں، بیہاں خدمت گزار اور وہ لوگ مراد ہیں جو ان کے لئے غبنا ک ہوتے ہوں، اور ایک دوسری روایت میں اہل اولاد کا لفظ ہے، فتح الباری، ۱/۱۳، ۷۴۔

کو سنا، اسے ذہن میں بٹھایا اور یاد کیا اور پھر اس کی تبلیغ و اشاعت کی کیونکہ بسا اوقات کوئی صاحب فقه ایسے شخص کے پاس (تبلیغ کی خاطر) جاتا ہے جو اس سے زیادہ صاحب فقه ہوتا ہے، تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے کسی مسلمان کا دل خیانت نہیں کر سکتا: اللہ کے لئے اخلاص عمل، حکام و امراء کی خیرخواہی اور مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا، کیونکہ ان کی دعا نہیں انکے پیچھے سے گھیرے ہوتی ہے۔

چنانچہ نبی کریم ﷺ نے اپنی بات کے سننے، اس کو اپنے دل و دماغ میں بٹھانے، یاد کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے والے کے حق میں خوشی، چہرے کی تروتازگی اور اس حسن و جمال کی دعا فرمائی ہے جو ایمان کے آثار اور باطن کے اس سے روشن ہونے نیز دل کے مسرت و شادمانی سے ہمکنار اور لذت یاب ہونے کے سبب چہرے کو عطا ہوتی ہے، چنانچہ جوان چاروں مراتب کو انجام دے گا وہ نبی کریم ﷺ کی طاہر و باطن کے حسن و جمال پر مشتمل دعا سے فیضیاب ہو گا (۱)۔

(۱) دیکھئے: مفتاح دار السعادۃ لابن القیم، ۲۷/۲۶ و ۲۷، تحقیق علی بن حسن بن عبدالحمید۔

کے خلاف بغاوت کرنے کی ممانعت کا بیان ہے، اگرچہ وہ اپنے فیصلہ میں ظلم و نا انصافی سے کام لے، اور یہ کہ فسق کی بنا پر اس کی اطاعت سے ہاتھ نہیں کھینچا جا سکتا، (۱)۔

تیرا بحث: حکمت سے وعد و نصیحت۔

(۲) نبی کریم ﷺ سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا:

”نصر الله امراً سمع مقالتي فوعاها وحفظها، وبلغها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم“ (۲)۔

الله تعالیٰ اس شخص کو خوش و خرم (تروتازہ) رکھے جس نے میری بات

(۱) فتح الباری، ۱/۱۳، ۷۱، ۷۲۔

(۲) جامع ترمذی بروایت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ۵/۳۲، حدیث (۲۴۵۸)، و مسند احمد، ۱/۳۳۷، نیز بروایت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، ۵/۱۸۳، اور ان دونوں کے علاوہ سے بھی مردی ہے، علامہ البانی نے اسے مشکاة المصابح (۱/۷۸) میں صحیح فرار دیا ہے۔

اممہ و امراء اور امت (رعایا) کی بھی خواہی کرے گا وہ خیانت سے بری ہو گا۔
اور آپ کا فرمان: ”اوہ مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا...“۔

یہ چیز بھی دل کو خیانت اور دھوکہ سے پاک کرنے والی چیزوں میں سے ہے، کیونکہ مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنے والا شخص اپنے التزام کے سبب مسلمانوں کی جماعت کے لئے وہی پسند کرے گا جو اپنی ذات کے لئے پسند کرتا ہے اور ان کے لئے وہی ناپسند کرے گا جو اپنی ذات کے لئے ناپسند کرتا ہے، جو چیز انہیں بری لگے گی وہ اسے بھی بری لگے گی اور جس چیز سے انہیں خوشی ہو گی اس سے اسے بھی خوشی ہو گی برعکس ان لوگوں کے جوان سے دور ہوں اور ان پر طعن و تشنیع، عیب جوئی اور مذمت گری ان کا شیوه ہو، جیسے رافضہ، خوارج اور معتزلہ وغیرہ، کیونکہ ان کے دل خیانت، بغض و عناد اور دھوکہ دہی سے پر ہیں، اسی لئے آپ دیکھیں گے کہ رافضہ لوگوں میں اخلاص سے سب سے بعید تر، ائمہ امراء اور امت کی سب سے زیادہ خیانت کرنے والے اوہ مسلمانوں کی جماعت سے سب سے زیادہ دور ہیں۔
اور نبی کریم ﷺ کا فرمان: ”کیونکہ ان کی دعا ان کے پیچھے سے گھرے

امام ابن قیم رحمہ اللہ مذکورہ حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں: ”نبی کریم کا فرمان: ”تمن چیزیں ایسی ہیں جن کے ہوتے ہوئے کسی مسلمان کا دل خیانت نہیں کر سکتا...“۔

یعنی ان تینوں چیزوں کے ہوتے ہوئے کسی مسلمان کے دل میں خیانت پیدا نہیں ہو سکتی اور نہ ہی اس میں باقی رہ سکتی ہے، کیونکہ یہ چیزیں خیانت، دھوکہ دہی، دل کی خرابی اور اس کے بعض و حسد اور سیاہیوں کے منافی ہیں، چنانچہ اللہ کے لئے مخلص کا اخلاص اس کے دل کو خیانت سے روکتا ہے اور اسے کلی طور پر نکال کر ختم کر دیتا ہے، کیونکہ اس کے دل کی خواہشات و احساسات اپنے رب کی رضا جوئی کی طرف منتقل ہو چکے ہوتے ہیں لہذا اس میں دھوکہ دہی کی کوئی جگہ باقی نہیں بچتی۔

اور نبی کریم ﷺ کا فرمان: ”اوہ مسلمانوں کے ائمہ و امراء کی خیر خواہی...“۔

یہ چیز بھی خیانت اور دھوکہ دہی کے منافی ہے کیونکہ خیر خواہی اور خیانت دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے بلکہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، چنانچہ جو شخص

ہوتی ہے۔

ہے وہ انسان پر بعینہ اسی طرح واجب ہے جس طرح پنجوچتہ نمازیں، زکاۃ، روزہ، حج بیت اللہ اور ان کے علاوہ دیگروہ اعمال واجب ہیں جن کی بجا آوری کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، اگرچہ اس نے اس کا معابدہ نہ کیا ہوا اور اس کے لئے پختہ حلف نہ اٹھائی ہو، اور اگر وہ اس پر قسم کھالے تو یہ چیز امراء کی اطاعت اور ان کی خیر خواہی کے سلسلہ میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی مزید تاکید و تثبیت ہوگی، چنانچہ ان باتوں کی قسم کھانے والے کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ قسم شدہ امر کی خلاف ورزی کرے... کیونکہ اللہ عزوجل نے انہے وامراء کی اطاعت اور خیر خواہی کو جو واجب فرار دیا ہے وہ یوں بھی واجب ہے خواہ وہ قسم نہ بھی کھائے، تواب جب کہ اس نے قسم کھائی ہے ان کی اطاعت اس پر بدرجہ اولیٰ واجب ہوگی، اسی طرح اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے جوان کی نافرمانی اور خیانت سے منع فرمایا ہے وہ اس پر حرام ہیں خواہ اس نے قسم نہ بھی کھائی ہو،^(۱)

اور انہے وامراء کو نصیحت ان کے اور ناصح کے مابین نرمی و ملائمت، حکمت

(۱) فتاویٰ ابن تیمیہ، ۳۵/۹، ۲۷۸ تا ۲۷۵، رقم ۱/۱۰۰۔

یہ بات بہت ہی عمده، مختصر اور عظیم ترین معنی پر مشتمل ہے، نبی کریم ﷺ نے مسلمانوں کی دعا کو اس چہار دیواری اور فضیل سے تشییہ دی ہے جو انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے اور ان کے دشمنوں کو ان تک پہنچنے سے مانع ہے، چنانچہ اسلام کی دعوت جس کے اندر مسلمان ہیں چونکہ ایک چہار دیواری اور فضیل کی مانند ہے لہذا اللہ کے نبی نے خبر دی ہے کہ جو مسلمانوں کی جماعت کو لازم پڑے گا اسے اسلام کی دعوت اپنے گھیرے میں لئے رہے گی جس طرح مسلمانوں کی جماعت کا احاطہ کئے ہوئے ہے، چنانچہ دعوت مسلمانوں کے اتحاد کو مشکم کرتی، پاسیدار بناتی اور تفرقہ بازی کو ختم کرتی ہے، اس کا شیرازہ متعدد کرتی ہے اور اسے گھیرے ہوئے ہوتی ہے، لہذا جو اس کی جماعت میں شامل ہوگا اسلام کی دعوت اسے اپنے گھیرے میں لے لے گی،^(۱)

شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے جو مسلمانوں کے امراء کی اطاعت اور ان کی بھی خواہی کا حکم دیا

(۱) مفتاح دار السعادہ، لابن القیم، ۱/۲۷۸ تا ۲۷۵، قدرے تصرف کے ساتھ۔

فرمایا:

”الدِّينُ النَّصِيحَةُ“ قلنا لمن يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ”اللَّهُ، وَكِتَابُهُ، وَرَسُولُهُ، وَأَئُمَّةُ الْمُسْلِمِينَ، وَعَامِتُهُمْ“^(۱)۔
دین خیرخواہی کا نام ہے، ہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! اس کے لئے؟ آپ نے فرمایا: اللہ، اس کی کتاب، اس کے رسول، مسلمانوں کے ائمہ و امراء اور عام مسلمانوں کے لئے۔

علامہ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”مسلمانوں کے ائمہ و امراء کی خیرخواہی کے معنی یہیں ان کی درستی، تیکی اور عدل و انصاف سے محبت کرنا نیز ان کے ہاتھوں پر امت کے اتفاق سے محبت اور ان پر امت کے اختلاف و افتراق کو ناپسند کرنا، اللہ کی اطاعت میں ان کی اطاعت کو نیکی سمجھنا، ان کے خلاف بغاوت کے جواز کا عقیدہ رکھنے والے سے بغض رکھنا اور اللہ عزوجل کی اطاعت میں ان کے غلبہ و سر بلندی کو پسند کرنا“^(۲)۔

(۱) صحیح مسلم، ۱/۷۸، حدیث (۵۵)۔

(۲) جامع العلوم و الحکم، ۱/۲۲۲۔

ودوراندیش، عمده نصیحت اور مناسب اسلوب میں خفیہ طور پر ہوگی۔

(۲۱) عیاض بن غنم سے روایت ہے کہ انھوں نے ہشام بن حکیم رضی اللہ عنہما سے پوچھا: کیا تم نے رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان نہیں سنا: ”من أراد أن ينصح لذى سلطان فلا يبدى علانية ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإن لا كان قد أدى الذي عليه“^(۱)۔

جو کسی صاحب اقتدار (امیر و حاکم) کو نصیحت کرنا چاہیے، وہ اسے علانیہ طور پر نہ ظاہر کرے، بلکہ اس کا ہاتھ پکڑ کر تہائی میں لے جائے (اور اسے نصیحت کرے) اگر وہ نصیحت قبول کر لے تو بہتر ہے، ورنہ اس نے اس کے تین اپنا فرض ادا کر دیا۔

(۲۲) تمیم داری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے

(۱) اسے امام عمر و بن ابی عاصم نے اپنی کتاب کتاب السنہ میں روایت کیا ہے، ۵۲۱/۲، ۵۲۱، و مدد احمد، ۳/۳۰۳، ۳۰۴، و مدرس حاکم، ۳/۲۹۰، ۲۹۰، امام یعنی مجمع الزوائد میں فرماتے ہیں: اسے امام احمد نے روایت کیا ہے، اور اس کے روایاں ثقہ ہیں، ۲۲۹/۵، امام البانی نے اسے ظلال الجہ نی تخریج السنہ (۵۲۱/۲) میں صحیح قرار دیا ہے۔

جائے، معروف میں ان کی اطاعت کی جائے، ان کے خلاف بغاوت نہ کی جائے، رعایا کو ان کی اطاعت اور ان کے حکم کی تعییل پر ابھارا جائے بشرطیکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نہ ہو، اپنی استطاعت بھر انہیں نصیحت اور اپنی رعایا کی دیکھ ریکھ کے سلسلہ میں جو چیزیں ان سے مخفی ہوں ان کی وضاحت کی جائے۔ ہر شخص اپنے اعتبار سے۔، ان کی صلاح و درستی اور توفیق کے لئے دعا کی جائے کیونکہ ان کی بہتری میں رعایا کی بہتری ہے، انہیں برا بھلا کہنے، ان کی عیب جوئی اور ان کی خامیوں اور برائیوں کو عام کرنے سے باز رہا جائے، کیونکہ اس میں برائی نقسان اور بہت بڑا فساد ہے، چنانچہ ان کی بہی خواہی کا تقاضہ یہ ہے کہ ان چیزوں سے بچا جائے اور دوسروں کو تنبیہ کی جائے، اور جو شخص ان کی جانب سے کوئی ناجائز چیز دیکھے اسے چاہئے کہ انہیں علانیہ نہیں بلکہ خفیہ طور پر زمی اور ایسے اسلوب میں تنبیہ کرے جو برعکل ہو اور مقصود حاصل ہو جائے، کیونکہ ہر شخص بالخصوص امراء و حکام کے حق میں یہی چیز مطلوب ہے، کیونکہ انہیں اس طرح تنبیہ کرنے میں بڑا خیر ہے، اور یہ سچائی اور اخلاص کی علامت ہے، اور اے (منکورہ

ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں: ”مسلمانوں کے ائمہ و امراء کی خیرخواہی کے معنی ہیں حق پر ان کے مدد کرنا، اطاعت کرنا، انہیں حق کی نصیحت کرنا، نرمی و ملائمت سے انہیں تنبیہ کرنا، ان سے اختلاف کرنے اور لڑنے جھگڑنے سے احتراز کرنا اور ان کے لئے توفیق کی دعا کرنا نیز غیر وہ کو اس پر ابھارنا“ (۱)۔

شیخ علامہ عبد الرحمن بن ناصر سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”رہا مسلمانوں کے ائمہ کی خیرخواہی کا مسئلہ: تو مسلمانوں کے ائمہ سے مراد سلطانِ اعظم سے لیکر امیر و قاضی تک ان کے امراء اور ذمہ داران ہیں، چونکہ ان لوگوں کے فرائض اور ذمہ داریاں دوسروں سے بڑھ کر ہیں اس لئے ان کے مقام و مرتبہ کے اعتبار سے انہیں نصیحت کرنا واجب ہے، بایس طور کہ ان کی امامت کا اعتقاد رکھا جائے، ان کی ولایت (حکمرانی) کا اعتراف کیا

(۱) مرجع سابق ۲۲۳/۱، نیز مسلمانوں کے امراء کی اطاعت کے بارے میں آب گہرے لکھنے کے قابل سنہرے اقوال کے لئے ملاحظہ فرمائیں: فتاویٰ ابن تیمیہ، ۲۸/۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۰، و منہاج السنۃ النبویہ، ۳۹۰/۳، و مفتاح دارالسعادة لابن القیم، ۱/۲۲، والجامع الفرید من کتب و رسائل ائمۃ الدینۃ الاسلامیۃ، ص ۲۸۱، و العقیدۃ الطحاویۃ، ص ۳۶۸۔

کرے گا۔

اور مسند احمد میں واقعہ کے ذکر کے بغیر الفاظ یوں ہیں:

”من أكرم سلطان الله تبارک وتعالیٰ فی الدنیا أکرمہ
الله یوم القيامۃ، ومن أهان سلطان الله تبارک وتعالیٰ
فی الدنیا أهانه الله یوم القيامۃ“ (۱)۔

جود نیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلطان کا احترام کرے گا اللہ تعالیٰ
اسے قیامت کے روز عزت عطا فرمائے گا اور جود نیا میں اللہ تبارک
و تعالیٰ کے سلطان کی توہین کرے گا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن
ذلیل کرے گا۔

اسی لئے سہل بن عبد اللہ تستری رحمہ اللہ نے فرمایا ہے: ”لوگ ہمیشہ ہمیشہ
خیر میں رہیں گے جب تک باڈشاہ (وقت) اور علماء کی تعظیم کرتے رہیں

(۱) مسند احمد، ۲۲/۵، امام یثیبی مجع الزوائد (۵/۲۱۵) میں فرماتے ہیں: اسے امام احمد اور
طبرانی مختصر ا روایت کیا ہے، اور اس کے شروع میں ”الا مام ظل اللہ فی الارض...“ کا اضافہ کیا ہے،
اور مسند احمد کے روایان ثقہ ہیں، علامہ البانی نے حسن قرار دیا ہے جیسا کہ گزراء نیز یہ صحیح الجامع میں
بھی ہے، حدیث (۵۹۸۷)۔

طریقہ پر) نصیحت کرنے والے! دیکھنا لوگوں کی مدح سراہی آپ کی نصیحت
کو ضائع و برباد نہ کر دے، بایں طور کہ آپ لوگوں سے کہتے پھریں کہ میں نے
انہیں نصیحت کی ہے اور ایسا ایسا کہا ہے، کیونکہ یہ ریا کاری اور ضعف اخلاص
کی علامت ہے، اور اس کے دیگر نقصانات بھی ہیں جو معروف ہیں، (۱)۔

(۲۳) زیاد بن سعیب عدوی سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ
میں ابو بکرہ کے ساتھ ابن عامر کے نمبر کے قریب بیٹھا ہوا تھا اور وہ باریک
لباس زیب تن کئے ہوئے خطبہ دے رہے تھے، ابو بلاں نے کہا: ہمارے
امیر کو دیکھو فاسقوں کا کچڑا پہنے ہوئے ہے! تو ابو بکرہ نے کہا: خاموش رہو
میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنائے:

”من أهان سلطان الله فی الأرض أهانه الله“ (۲)۔

جس نے زمین میں اللہ کے سلطان کی توہین کی اللہ تعالیٰ اسے ذلیل

(۱) ارشاد الناضرہ والحدائق انہرۃ الزاہرہ، ص ۳۸ تا ۳۹۔

(۲) جامع ترمذی، حدیث (۲۳۳۹)، علامہ البانی نے اسے سلسلۃ الاحادیث الصحیحة
حدیث/۲۲۹۷ میں حسن قرار دیا ہے، نیز دیکھیج: صحیح من ترمذی، ۲۳۵/۲۔

حکمت کا اسلوب اپنایا کیونکہ امیر و حاکم کی نصیحت میں اس کے مقام و مرتبہ کی رعایت ضروری ہے، اس لئے کہ لوگوں کے ساتھ ان کے مقام و مرتبہ کے مطابق معاملہ کرنا حکمت کی اساس ہے، اسی لئے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا ہے: ”حدیث (مذکور) میں امراء کی تعلیم ملحوظ رکھنے اور انکے ساتھ ادب سے پیش آنے نیز لوگ ان کے سلسلہ میں جو کچھ کہتے ہیں اس کو ان تک پہنچانے کا بیان ہے (۱) تاکہ وہ بازار ہیں اور نرمی اور حسن ادا نیکی کے ساتھ ان سے ہوشیار رہیں، بایں طور کر کسی کی ایذا رسانی کے بغیر مقصود حاصل ہو جائے“ (۲)۔

انکار منکر کی شرط یہ ہے کہ اس سے بڑا منکر لازم نہ آئے، کیونکہ انکار منکر کے جیسا کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا ہے (درج ذیل) چار

درجے ہیں:

پہلا درجہ: منکر زائل ہو جائے اور اس کی جگہ اس کی ضد (معروف) آجائے۔

(۱) اس سے غیبت و چغلی اور لکائی بھائی کے طور پر لوگوں کی باتیں پہنچانا مقصود نہیں ہے۔

(۲) فتح الباری، ۵۳/۱۲، نیزد کیمھ: شرح نووی، ۱۸/۳۲۸۔

گے، اگر ان دونوں کی عزت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی دنیا و آخرت سنوار دے گا، اور اگر دونوں کی ناقدری کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی دنیا و آخرت خراب کر دے گا“ (۱)۔

(۲۲) اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے کہا گیا: اگر آپ فلاں (۲) کے پاس جا کر گفتگو کرتے! تو آپ نے فرمایا: تمہارا خیال یہ کہ ہے میں ان سے گفتگو کروں تو تمہیں سناؤ کروں!! میں خفیہ طور پر ان سے گفتگو کروں گا، [اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے: اللہ کی قسم میں نے اپنے اور ان کے درمیان (خفیہ طور پر) ان سے گفتگو کی ہے] بجائے اس کے کہ میں ایک ایسا دروازہ کھولوں، کہیں اسے سب سے پہلے کھولنے والا میں ہی نہ ہو جاؤں...“ (۳)۔

چنانچہ اسامہ رضی اللہ عنہ نے امیر باعثت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ

(۱) تفسیر قرطی، ۲۶۲/۵۔

(۲) یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، حدیث (۲۹۸۹)۔

(۳) صحیح بخاری، حدیث (۳۲۶۷ و ۳۲۶۸)، صحیح مسلم، حدیث (۲۹۸۹)۔

اور اس میں کوئی شک نہیں کہ رعایا کے سامنے اور ان کی موجودگی میں مسلمانوں کے ولی امر کو علانية طور پر تنبیہ کرنا عام طور پر بہت بڑے شر و فساد کا سبب ہوتا ہے بلکہ بسا اوقات اس کا نتیجہ اختلاف و افتراق یا امام المسلمين کے خلاف بغاوت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اور ولی امر کو چاہئے کہ وہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور انہیں برائی سے روکے، پھر اس بات کا بھی اندیشہ ہے کہ اس سے خامی کا صدور ہو کیونکہ وہ بشر ہے، لیکن اس کی اصلاح خفیہ طور پر حکمت اور محمود روداری کے ساتھ کی جائے، اس کے ساتھ زرمی کا معاملہ کیا جائے اور انہیاً متنانت اور سنجیدگی سے اسے نصیحت کی جائے، یہی طریقہ قبولیت کے لائق ہے (۱)۔

ساحت آب علامہ محقق شیخ عبدالعزیز بن عبد اللہ بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”مسلمانوں کے ائمہ و امراء کے عیوب و نقصاں کی تشبیہ اور انہیں منبروں پر بیان کرنا سلف کا طریقہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تباہی و بربادی اور سمع و طاعت نہ کرنے نیز اس بغاوت کا سبب ہے جو سراپا نقصان دہ ہے،

(۱) دیکھئے: فتح الباری، ۱۳/۵۲، عدۃ القاری، ۱۵/۱۶۶۔

دوسری درجہ: مکنر بالکل یہ زائل نہ ہو بلکہ کم ہو جائے۔

تیسرا درجہ: مکنر کی جگہ ویسا ہی دوسرا مکنر آجائے۔

چوتھا درجہ: مکنر کی جگہ پہلے سے بڑا مکنر آجائے۔

مذکورہ درجات میں سے ابتدائی درجہ تو م مشروع ہیں اور تیسرا محل اجتہاد ہے اور چوتھا درجہ حرام (۱)۔

امام نووی رحمہ اللہ اسامہ کے قول ”بجائے اس کے کہ میں ایک ایسا دروازہ کھلوں، میں نہیں چاہتا کہ سب سے پہلے کھولنے والا میں ہوں“ کے سلسلہ میں فرماتے ہیں: ”ان کا مقصد امراء کو ان کی رعایا کے درمیان علانية تنبیہ کرنا ہے جیسا کہ قاتلان عثمان نے امیر المؤمنین عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا تھا، اس میں امراء کے ساتھ ادب، نرمی، انہیں خفیہ نصیحت اور لوگ جو کچھ ان کے بارے میں کہتے ہیں اسے ان تک پہنچانے کا بیان ہے تاکہ وہ اس سے باز رہیں...“ (۲)۔

(۱) اعلام الموقیعین عن رب العالمین، ۳/۱۶، اس جگہ اور بہت سی مفید باتیں ملاحظہ کریں۔

(۲) شرح نووی، ۱۸/۳۲۹۔

کہ: ”اگر ہمارے پاس مقبول دعا ہوتی تو ہم اسے سلطان (حاکم اور امیر وقت) کے لئے کرتے“ (۱)۔

یہ محض اسی لئے کہ اگر حاکم وقت (امیر) درست ہوتا ہے تو رعایا بھی درست ہوتی ہے اور اگر حاکم خراب ہوتا ہے تو رعایا بھی خراب ہو جاتی ہے اور اسی لئے عثمان رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا جاتا ہے کہ انہوں نے فرمایا: ”بیشک اللہ تعالیٰ سلطان سے وہ کام لے لیتا ہے جو قرآن سے نہیں لیتا“، نیز امام حسن بن علی بر بہاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”جب آپ کسی شخص کو دیکھیں کہ وہ حاکم وقت پر بددعا کر رہا ہے تو جان لیں کہ وہ ہوا پرست (بدعتی) ہے اور جب کسی شخص کو امیر وقت کے لے صلاح و درستی کی دعا کرتے ہوئے سنیں تو جان لیں کہ وہ ان شاء اللہ تعالیٰ سنت ہے“ (۲)۔

فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”اگر میرے پاس کوئی مقبول دعا ہوتی تو میں اسے امیرِ مسلمین ہی کے لئے کرتا، آپ سے دریافت کیا گیا کہ

(۱) دیکھئے: فتاویٰ شیخ الاسلام ابن تیمیہ ۲۸/۳۹۱، وطبقات الحجۃ، ۲/۳۶۔

(۲) کتاب شرح السنن لامام احسان بن علی البر بہاری رحمہ اللہ، ص ۵۱۔

البتہ سلف صالحین کے یہاں معمول بہ طریقہ یہ تھا کہ نصیحت ان کے اور ولی امر کے مابین ہوتی تھی اور خط و کتابت ہوا کرتی تھی یا ان علماء سے ملاقات ہوا کرتی تھی جو امراء و حکام سے تعلق رکھتے ہوں، تاکہ انہیں بھلانی کی توجیہ کی جائے، اور انکار منکر (برائی پر تنبیہ) کا طریقہ یہ ہے کہ منکر کے مرتكب کا ذکر کئے بغیر انکار کیا جائے، چنانچہ زنا کاری، شراب نوشی، اور سودخوری وغیرہ پر مرتكب کا ذکر کئے بغیر تنبیہ کی جائے، اسی طرح گناہوں پر نکیر اور ان سے اجتناب کی تلقین بھی فاعل کا ذکر کئے بغیر کافی ہے، فاعل کے ذکر کی کوئی ضرورت نہیں خواہ حاکم ہو یا محکوم...“ (۱)۔

چوتھا مبحث: مسلم امراء و حکام کے لئے دعا۔

رعایا پر حاکم کا ایک حق یہ ہے کہ رعایا حاکم کے لئے دعا کرے، اسی لئے سلف صالحین مثلًا فضیل بن عیاض اور امام احمد بن حنبل وغیرہ کہا کرتے تھے

(۱) ”حقوق الراعی والرعیة“ کے اخیر میں طبع شدہ سماحتۃ الشیخ ابن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ ملاحظہ فرمائیں، ص ۲۷، ۲۸، ۲۸، نیز سلطان وقت کی نصیحت کے لئے آداب کے فوائد کے لئے ملاحظہ کریں الآداب الشرعیہ للام محمد بن مفلح المقدسی، ۱/۱۹۶ تا ۲۰۸، تحقیق شعیب ارناؤوط، وتنبیہ الغافلین لابن الحجاس، ص ۵۹ تا ۶۸، تحقیق عmad الدین عباس۔

کے درمیان پھیلانا جائز ہے، کیونکہ اس میں بہت بڑا فساد ہے، اسی لئے علامہ ابن عساکر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”اعلم یا أخني - وفقني الله وإياك لمرضاته وجعلني وإياك
ممن يتقى حق تقاته - أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة
الله في هتك أسرار منتقصهم معلومة، وأن من أطال لسانه
في العلماء بالثلب بلاه الله قبل موته بموت القلب“۔

میرے بھائی! - اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی رضا کی توفیق دے
نیز مجھے اور آپ کو ان بندوں میں سے بنائے جو اس سے کما حلقہ
ڈرتے ہیں - آپ جان لیں کہ علماء کا گوشت زہر آسود ہے، اور ان
کے عیوب و نقص کے اسرار کی پامالی کے سلسلہ میں اللہ کی سنت
معلوم ہے، نیز یہ کہ جو شخص علماء کے نقص کے بارے میں زبان
درازی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اس کی موت سے پہلے دل کی موت
میں بٹلا کر دے گا“۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

: اے ابو علی! ہمیں ذرا اس کا مطلب بتائیں؟ انہوں نے فرمایا: یعنی اگر میں
اس دعا کو اپنی ذات کے لئے خاص کر لوں گا تو وہ مجھ سے تجاوز نہ کرے گی
اور اگر میں اسے ولی الامر کے لئے کروں گا تو اس کی اصلاح ہو گی اور اس
کے نتیجہ میں اللہ کے بندوں اور ملکوں کی اصلاح ہو گی، ہمیں ان پر بدعا
کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے اگرچہ ظلم و زیادتی سے پیش آئیں، کیونکہ ان
کے ظلم و زیادتی کا وبال خود ان کی ذات پر ہو گا اور ان کی درستی کا فائدہ ان کی
ذات اور عام مسلمانوں کے لئے ہو گا“ (۱)۔

اسی طرح اگر علماء سے غلطی یا بھول چوک کا صدور ہو جائے تو ان کے
ساتھ بھی نصیحت اور دعا کا معاملہ ہونا چاہئے، کیونکہ وہ بھی بشر ہیں، معصوم
نہیں، اور وہ مسلمانوں کے اوپنے ذمہ داروں میں سے ہیں، لہذا برا بھلا کہنا
اور ان کی تشویہ کرنا جائز نہیں اور نہ ہی ان کی لغزشوں کو ٹوٹانا اور اسے لوگوں

(۱) کتاب شرح السنن للإمام أنس بن علي بن خلف البرهاري رحمہ اللہ ت (۳۲۹ھ) تحقیق
خالد بن قاسم المرداوی، ص ۱۱۶، مکتبۃ الغرباء، نیز دیکھئے: طبقات الحنابلہ، ۳۲/۲، و حلیۃ الاولیاء
۹۱/۸۔

﴿فَلِيَحْذِرُ الَّذِينَ يَخْالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فَتْنَةٌ أَوْ
يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (۱)۔

لہذا جو لوگ اس کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے
ڈرتے رہنا چاہئے کہ کہیں انہیں کوئی فتنہ لاحق نہ ہو جائے یا وہ
دردناک عذاب سے دوچار نہ ہوں۔

اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگی جاتی ہے اور اسی پر بھروسہ ہے، (۲)۔
پانچواں مبحث:

ائمه و اماء کے خلاف بغاوت کرنے والے اور ان کے صفات۔

امیر مسلم کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے والے چار قسم کے لوگ ہیں:

۱- وہ لوگ جنہوں نے امیر وقت کی اطاعت سے انکار کیا اور اس
کی دسترس سے خارج ہو گئے، یہ رہن اور زمین میں فساد برپا کرنے
والے ہیں۔

(۱) سورۃ النور: ۶۳۔

(۲) دیکھئے: رسالہ الحمد لله علما مسومہ، ص ۳۱۔

۲- وہ لوگ جن کے پاس کوئی تاویل ہے، البتہ یہ بہت کم، ایک دو، دس
لوگ ہیں، جن کی کوئی شان و شوکت نہیں: یہ لوگ حنابلہ کی اکثریت کی رائے
کے مطابق راہزن ہیں، امام شافعی کا بھی بھی مذهب ہے، اور کہا گیا ہے کہ کم
و بیش میں کوئی فرق نہیں، امام وقت کی دسترس سے نکلنے کے سبب ان سب کا
حکم باغیوں کا ہے۔

۳- کچھ مسلمان لوگ جو امام وقت کی دسترس سے نکل کر کسی تاویل کی
بنیاد پر اس کی بیعت کو توڑنا چاہتے ہیں، اور ان کی قوت و شوکت بھی ہے،
انہیں بس فوج اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے، ایسے لوگ باغی ہیں۔

۴- خوارج جو گناہ کی بنیاد پر تکفیر کرتے ہیں اور عثمان، علی، طلحہ، زبیر اور
دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جمعیں کو فرقہ را دیتے ہیں (۱)۔

خوارج گناہوں کے مرتبین کی تکفیر کرتے ہیں، ان کے خون و مال کو
حلال سمجھتے ہیں اور انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے مستحق جہنم گردانے ہیں، صرف
قرآن کریم کی اتباع کا عقیدہ رکھتے ہیں اور سنت جو ظاہر قرآن کے خلاف ہو

(۱) یہ تفصیل المختنی لابن قدامة میں ملاحظہ کریں، ۱۲/۲۳۷-۲۳۸۔

فقال عليه السلام: ”معاذ الله أن يتحدث الله أني أقتل أصحابي، إن هذا وأصحابه يقراءون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية“ (١)۔

تیری بر بادی ہو! اگر میں انصاف نہ کروں تو کون انصاف کرے گا؟ اگر میں نے انصاف سے کام نہیں لیا ہے تو یقیناً تو خائب و خاسر ہو گیا، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس منافق کا سر قلم کر دوں؟ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: میں اس بات سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ لوگ کہتے پھریں کہ میں اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہا ہوں، بیشک یہ اور اس کے ساتھی قرآن پڑھیں گے جو ان کے گلے سے اوپر نہ اٹھے گا، وہ قرآن سے ایسے نکل گئے ہوں گے جیسے تیرزدہ (شکار) سے تیز نکل جاتا ہے۔

(١) صحیح بخاری، کتاب فرض الحسن، باب ومن الدلیل علی ان الحسن لتواب المسلمين، حدیث (٣١٣٨)، صحیح مسلم، کتاب الزکاة، باب ذکر الخوارج وصفاقم /٢٠٢، حدیث (١٠٢٣)۔

گرچہ متواتر ہی کیوں نہ ہو نہیں مانتے، اور اپنے مخالفین کو کافر قرار دیکر اس کا وہ سب کچھ حلال سمجھتے ہیں جو اصلی کافر کا بھی نہیں سمجھتے (۱)، کیونکہ ان کے نزدیک (ان کا مخالف) مرتد ہے، اور امام وقت کے خلاف۔ اگر وہ سنت کی مخالفت کر دے۔ بغاوت کرنا واجبی حق تصور کرتے ہیں (۲)۔

نبی کریم ﷺ نے ان کے صفات بیان کئے ہیں (۳) اور امت کے لئے ان کی وضاحت فرمائی ہے، چنانچہ ایک خارجی شخص نے نبی کریم ﷺ سے۔ درحالیکہ آپ جرانہ کے مقام پر مال غیمت تقسیم کر رہے تھے۔ کہا: اے محمد ﷺ! انصاف سے کام لیجئے! آپ نے فرمایا:

”وَيْلٌ لِّمَنْ يَعْدُلُ إِذَا لَمْ أَكُنْ أَعْدُلَ؛ لَقَدْ خَبِطَ وَخَسِرَتْ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدُلَ“ فقال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ: دعني یا رسول اللہ فأقتل هذا المنافق؛

(١) فتاویٰ شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ٣٣٥/٣۔

(٢) املک و اخلاق لالشہرستانی، ١/١٥٥۔

(٣) خوارج اور ان کے فرقوں کی رائے کی تفصیل زیر نظر کتاب کے ص (٢٣٦٢٥٥) میں اور ان کی تردید اور مناقشہ (٢٦٧٢٥٥) میں ملاحظہ فرمائیں۔

الأوثان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية (١)، لئن أدركتهم لأقتلهم قتل عاد“ (٢)۔

اس شخص کی نسل سے کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے لیکن وہ ان کے گلے سے اوپر نہ جائے گا، وہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے، اسلام سے اسی طرح نکل جائیں گے جس طرح تیرشکار سے نکل کر پار ہو جاتا ہے، اگر میں انہیں پاؤں گا تو قوم عاد کی طرح قتل کروں گا۔

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنًا:

(١) ”يَرْقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ“، اور ایک روایت میں ”الدِّين“ کا لفظ ہے: معنی یہ ہے جس طرح تیرشکار میں پیوست ہو کر دوسری طرف پار ہو جاتا ہے اس میں کوئی چیز نہیں لگتی، اسی طرح یہ دین اسلام سے نکل گئے ہوں گے، اور ”الرمیة“ تیر زد بیکار کو کہتے ہیں، دیکھئے: شرح نووی بر صحیح مسلم، ۱۶۶/۷۔

(٢) صحیح بن حاری، کتاب الانبیاء، باب قول اللہ تعالیٰ: ﴿وَإِلَى عَادَ أَخَاهُمْ هُوَ دَا﴾ حدیث (٣٣٣)، صحیح مسلم، کتاب الزکاۃ، باب ذکر انوار وجصاف، ٢/٣١، حدیث (١٠٦٣)۔

اور اسی طرح نبی کریم ﷺ سونا تقسیم فرمائے تھے کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہا: ”اے محمد! اللہ سے ڈر ریے!“، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”فَمَنْ يَطِعُ اللَّهَ إِنْ عَصَيْتَهُ ! أَيَّا مَنِي عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ وَلَا تَأْمُنُونِي“۔

اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں گا تو پھر اس کی اطاعت اور کون کرے گا؟ کیا اللہ مجھے زمین والوں پر مامون سمجھتا ہے اور تم مامون نہیں سمجھتے۔

پھر آپ نے فرمایا:

”إِنْ مِنْ ضَيْضَىٰ هَذَا (١) قَوْمًا يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يَجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ (٢) يَقْتَلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامَ، وَيَدْعُونَ أَهْلَ

(١) ”من ضيضى هذا“، یعنی اس کی اصل سے، ”ضيضى“، کسی چیز کی اصل کو کہا جاتا ہے، شرح نووی، ٧/١٦٨۔

(٢) ”لا يجاوز حناجرهم“، یعنی ان کے دل کچھ بھی نہ سمجھیں گے، نہ ان کو اس تلاوت سے کوئی فائدہ ہوگا، انہیں محض منہ، گلے اور حق کے ذریعہ حروف کی ادائیگی کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہ ہوگا، اور کہا گیا ہے کہ ان کا کوئی عمل اور تلاوت نہ چڑھے گی اور نہ قبول ہوگی، شرح نووی، ٥/١٦٥۔

الأحلام (١) يقولون من خير قول البرية (٢) يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإذا لقيتموهن فاقتلوهم؛ فإن في قتلهم أجرًا لمن قتلهم عند الله يوم القيمة“ (٣)۔

آخری زمانہ میں کچھ ایسے کم عمر اور بے وقوف لوگ نکلیں گے جو (بظاہر) دنیا کی سب سے عمدہ اور بہتر بات بولیں گے، قرآن پڑھیں گے جو ان کے لئے ایسے ہی نکل گئے ہوں گے جیسے تیرشکار سے نکل جاتا ہے، جب تم ان سے ملوٹو انہیں قتل کر دو، کیونکہ انہیں قتل کرنے والوں کے لئے اللہ کے بیہاں قیامت کے دن بہت بڑا اجر ہو گا۔

(١) یعنی نئی عمر اور کم عقل والے ہوں گے، شرح امام نووی، ٧/٢٧٤۔

(٢) مفہوم یہ ہے کہ وہ بظاہر ایسے ہوں گے، مثلاً وہ کہیں گے کہ ”فیصلہ صرف اللہ کا حق ہے“، وغیرہ جس سے معلوم ہو گا کہ وہ کتاب اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، والد اعلم، شرح نووی، ٧/٢٥۔
 (٣) صحیح بخاری، کتاب فضائل القرآن، باب من رایا بقراءة القرآن او تآکل به او فخر به، حدیث (٥٠٥٧)، صحیح مسلم، کتاب الإذکرة، باب ذکر انوار حوصاف حُمَّ، ٢٠٢، حدیث (١٠٦٣)۔

”يخرج فيكم قوم تحقرن صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وعملكم مع عملهم، ويقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية“ (١)۔

تمہارے درمیان سے کچھ ایسے لوگ نکلیں گے جن کی نمازوں کے مقابلہ میں تم اپنی نمازوں کو، ان کے روزوں کے مقابلہ اپنے روزوں کو اور ان کے عمل کے مقابلہ اپنے عمل کو حقیر اور کمتر سمجھو گے، وہ قرآن پڑھیں گے جو ان کے لئے سے تجاوز نہ کرے گا، وہ دین سے ایسے ہی نکل گئے ہوں گے جس طرح تیرشکار سے نکل جاتا ہے۔

علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا:

”سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسناد، سفهاء

(١) صحیح بخاری، کتاب فضائل القرآن، باب من رایا بقراءة القرآن او تآکل به او فخر به، حدیث (٥٠٥٧)، صحیح مسلم، کتاب الإذکرة، باب ذکر انوار حوصاف حُمَّ، ٢٠٢، حدیث (١٠٦٣)۔

دوسری فصل: تکفیر کے چند اصول

کچھ (بنیادی) اصول ہیں جنہیں ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے، ان میں سے بعض اصول حسب ذیل ہیں:

(۱) سنت اور احادیث نبویہ ہی قرآنی احکام اور مومن و کافر، مشرک و موحد، نیک و بد، متقی و ظالم، دوستی و دشمنی اور شریعت کے دیگر حدود کی شناخت کے لئے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ حدود کی معرفت کے باب میں کتاب اللہ میں وارد نصوص کے معانی و مقاصد کی وضاحت کرنے والے ہیں، چنانچہ جس نے انہیں نظر انداز اور ضائع کر دیا اس نے اپنی ذات کے لئے علم و ایمان اور قرآن کریم کے معانی کی معرفت کے دروازے بند کر لئے (۱)۔

(۱) دیکھئے: اصول و ضوابط فی التکفیر، للعلماء عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن آل اشیخ، تحقیق اشیخ عبدالسلام بن برجس، ص ۳۱۔

(۲) ایمان ایک اساس اور بنیاد ہے، اس کی مختلف شاخیں ہیں، ان میں سے ہر شاخ کا نام ایمان ہے، سب سے اوپری شاخ اس بات کی گواہی دینا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبد حقیقی نہیں، اور سب سے ادنیٰ اور معمولی شاخ راستہ سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا ہے، چنانچہ ان میں سے کچھ شاخیں ایسی ہیں جن کے زوال سے اجماعی طور پر ایمان زائل ہو جاتا ہے، جیسے شہادتین کی شاخ، اور کچھ شاخیں ایسی ہیں جن کے زائل ہونے سے اجماعی طور پر ایمان زائل نہیں ہوتا، جیسے راستہ سے تکلیف دہ چیز کا نہ ہٹانا، ان دونوں شاخوں کے درمیان متعدد شاخیں ہیں جن میں سے کچھ کلمہ شہادت کی شاخ سے ملتی ہیں اور اس سے قریب تر ہیں، اور کچھ شاخیں راستہ سے تکلیف دہ چیز کے ہٹانے کی شاخ سے ملتی ہیں اور اس سے قریب تر ہیں، ان تمام شاخوں کو برابر قرار دینا نصوص شریعت اور امت کے سلف صالحین اور ائمہ کے منتج کے خلاف ہے۔

اسی طرح کفر کی بھی اساس اور شاخیں ہیں، چنانچہ جس طرح ایمان کی شاخیں ایمان کھلاتی ہیں اسی طرح کفر کی شاخیں کفر کھلاتی ہیں، اور جس

۳- دل کا عمل: یعنی نیت، اخلاص، محبت، تابعداری، اللہ کی طرف کامل توجہ، اس پر توکل و اعتماد اور اس کے لوازمات و متعلقات۔

۴- زبان اور اعضاء و جوارح کا عمل: زبان کا عمل وہ چیزیں ہیں جو زبان کے بغیر ادا نہیں ہو سکتیں، جیسے تلاوت قرآن کریم، بقیہ اذکار و دو ظالائف اور دعاء و استغفار وغیرہ۔ اور اعضاء و جوارح کا عمل وہ چیزیں ہیں جن کی ادا یگی اعضاء و جوارح سے ہی ممکن ہے، جیسے قیام، رکوع، سجدہ اور اللہ کی مرضی میں چلانا پھرنا، جیسے مساجد، حج، جہاد فی سبیل اللہ وغیرہ کے لئے آمدورفت... (۱)۔

چنانچہ جب دل کی تصدیق، اس کا اطمینان و رضا مندی اور اللہ سے اس کی محبت زائل ہو گی تو ایمان بھی زائل ہو جائے گا۔

اور اگر اعضاء و جوارح کا کوئی عمل زائل ہو جائے تو اہل سنت و جماعت کے یہاں اس میں تفصیل ہے، اور اس کے دلائل اپنی جگہ

(۱) دیکھئے: اصول و ضوابط فی التغیر، ص ۳۲، و معراج القبول بشرح سلم الوصول الی علم الاصول فی التوحید، للشیخ حافظ الحکمی رحمۃ اللہ علیہ، ۵۹۱۷۵۸۸۔

طرح تمام نیکیاں ایمان کی شاخیں ہیں اسی طرح تمام گناہ و معاصی کفر کی شاخیں ہیں، ان دونوں کے درمیان نام اور احکام میں برابری نہیں کی جائے گی۔

اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے یا مصحف (قرآن کریم) کی توہین کرنے والے اور چور، زنا کار، یا شراب خور کے درمیان فرق ہے، چنانچہ اس طور پر کفر کی شاخوں کے درمیان برابری کرنے والا کتاب و سنت کا مخالف، سلف امت کے گام سے خارج اور اہل بدعت اور ہوا پرستوں کے زمرہ میں داخل ہے۔

(۲) ایمان قول و عمل سے مرکب ہے، یعنی دل و زبان کا اقرار، اور دل و زبان اور اعضاء و جوارح کا عمل، یہ چار چیزیں دین اسلام کی جامع ہیں:

۱- دل کا قول (اقرار): یعنی دل کی تصدیق، یقین اور اعتقاد۔

۲- زبان کا قول: یعنی شہادتین (کلمہ شہادت): ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ“ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی زبان سے ادا یگی اور اس کے لوازمات کا اقرار۔

جائے، اسی طرح بندے کے ایمان کے شعبوں میں سے کسی شعبہ کے اپنانے سے لازم نہیں آتا کہ اسے مومن کہا جائے، نہ ہی کفر کے کسی شعبہ میں ملوث ہونے سے لازم آتا ہے کہ اسے کافر کہا جائے گرچہ انجام دیا جانے والا عمل کفر ہی کیوں نہ ہو، ہاں البتہ فی نفسه اس شعبہ کو کافر کہا جائے گا، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں وارد ہے:

”اثنتان هما بهم کفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت“^(۱).

میری امت میں دو چیزیں کفر یہ ہیں: نسب میں طعنہ زنی اور میت پر نوحہ خوانی۔

لیکن چونکہ یہ کفر (اصلی یا اکبر) سے کمتر کفر ہے اس لئے اسے مطلق کفر نہیں کہا جائے گا، جس نے یہ بات سمجھی اس نے سلف صالحین کی فقہ، ان کے علم کی گہرائی اور ان کے قلت تکلف کو جان لیا، اسی لئے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے:

^(۱) صحیح مسلم، ۸۲/۱، حدیث (۲۷).

مذکور ہیں (۱)۔

(۲) کفر کی دو قسمیں ہیں: ایک کفر اکبر (بڑا کفر) جیسے اللہ کے ساتھ شرک کرنا یا جن چیزوں کی اس نے خبر دی ہے اس کا انکار کرنا یا اللہ یا اس کے رسول ﷺ کو گالی دینا (یا بر اجلا کہنا)، یہ چیز ہر طرح سے ایمان کے منافی ہے، دوسرا کفر اصغر (چھوٹا کفر) جس کا مرکب ملت اسلامیہ سے خارج نہیں ہوتا، جیسے وہ گناہ و معاصی جو کفر اکبر سے کمتر ہیں (۲)۔

عنقریب ان تمام چیزوں کی تفصیل اور اس بات کا بیان آئے گا کہ کفر، نفاق، شرک، ظلم، فتن اور بدعت وغیرہ سب کی دو قسمیں ہیں: اکبر اور اصغر (۳)۔

(۴) جس طرح سائنس یا طب یا فقه کے مختص کسی ایک گوشہ کی معرفت رکھنے سے لازم نہیں آتا کہ (ایسے شخص کو) سائنس داں یا طبیب یا فقیہ کہا

(۱) دیکھئے: اصول و ضوابط فی التفیر، ص ۳۵۔

(۲) دیکھئے: اصول و ضوابط فی التفیر، ص ۲۵ تا ۳۶۔

(۳) دیکھئے: اس کتاب کا ص ۱۸۰ اور ۱۸۱، نیز اصول و ضوابط فی التفیر، ص ۲۰۔

”من کان متأسیا فلیتأس ب أصحاب رسول اللہ ﷺ،
فإنهم أبر هذه الأمة قلوبًا، وأعمقها علمًا، وأقلها
تكلفًا، قوم اختارهم الله لصحبة نبیه، فاعرفووا لهم
حقهم؛ فإنهم كانوا على الهدى المستقيم“ (۱)۔

جو آئیڈیل بنانا چاہے اسے چاہئے کہ رسول اللہ ﷺ کے صحابہ
کرام کو آئیڈیل اور نمونہ بنائے، کیونکہ وہ اس امت میں سب سے
زیادہ نیک اور پاکیزہ دل والے، سب سے گھرے علم والے اور
سب سے کم تکلف کرنے والے تھے، وہ ایسی معزز ہستیاں تھیں
جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت کے لئے منتخب فرمایا تھا، لہذا
ان کا حق پیچانو کیونکہ وہ راہ راست پر گامزن تھے۔ ع
یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر مردی کی واسطے دار و رسن کہاں (۲)

(۱) دیکھئے: اصول و ضوابط فی التّفیر لعبداللطیف آل اشخ، ص ۳۶۔

(۲) از مرجم۔

تیسری فصل: تکفیر کے ضوابط۔

تکفیر کے کچھ ضوابط ہیں جن کی معرفت ضروری ہے، بعض ضوابط در ذیل
ہیں:

(۱) ظاہری حالت پر حکم لگانا: کیونکہ اہل سنت و جماعت کے احکام وہم
و گمان اور شکوک و شبہات پر منی نہیں ہوتے، اسی لئے اسامہ رضی اللہ عنہ نے
ایک شخص کو ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰہُ“ کہنے کے بعد قتل کر دیا تو نبی کریم ﷺ نے ان
سے فرمایا: ”أَقْالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰہُ وَقَتْلَتْهُ؟“، کیا لا إِلَهَ إِلَّا اللّٰہُ کہنے کے
باوجود تم نے اسے قتل کر دیا؟ انہوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! اس
نے ہتھیار کے خوف سے لا إِلَهَ إِلَّا اللّٰہُ کہا تھا، آپ نے فرمایا: ”أَفَلَا شَقَّتْ
عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَمَ أَقْالَهَا أَمْ لَا؟“، تو تم نے اس کا دل چاک کر کے
دیکھا کیوں نہیں کہ کیا اس نے لا إِلَهَ إِلَّا اللّٰہُ وَقَاتَیْ کہا ہے یا نہیں؟ اللہ کے نبی
ﷺ مسلسل یہ سوال مجھ سے دہراتے رہے بہاں تک کہ میں نے تمنا کی کہ

کاش میں آج مسلمان ہوا ہوتا (۱)۔

اس حدیث میں فقه و اصول کے معروف قاعدة ”احکام میں ظاہری حالت پر عمل کیا جائے گا اور باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے“ کی دلیل ہے (۲)۔

(۲) شخص معین کی تکفیر میں احتیاط کرنا: کیونکہ اہل سنت و جماعت کا مذہب ان دو گروہوں کے عقیدہ کے مابین ہے جن میں سے ایک اس بات کا قائل ہے کہ ”ہم اہل قبلہ میں سے کسی کو کافرنیں کہتے“ اور دوسرا گروہ شروط تکفیر کے وجود اور اس کے موانع کے عدم وجود سے صرف نظر کرتے ہوئے مسلمان کو ہرگناہ کی پاداش میں کافر قرار دیتا ہے، چنانچہ اہل سنت کہتے ہیں: کہ جس نے دین اسلام کے کسی بھی بد مہی طور پر معلوم حرام امر کو حلال سمجھا اس نے کفر کیا، اور جس نے کہا کہ قرآن مخلوق ہے یا آخرت میں اللہ عزوجل کا دیدار نہ ہوگا، اس نے کفر کیا، لیکن جس شخص نے کفر یہ کلمہ کہایا کافر یہ عمل انجام دیا

اس پر کفر کا حکم نہیں لگایا جائے گا یہاں تک کہ کفر کے سارے شرائط پائے جائیں اور اس کے لئے کوئی چیز مانع نہ ہو (۱)، چنانچہ جب شرائط پائے جائیں گے اور ممانع نہ ہوں گے تو اس پر ارتدا دکا حکم لگایا جائے گا، اور اس سے توبہ کرائی جائے گی، اگر توبہ کر لے تو ٹھیک ورنہ اسے قتل کر دیا جائے گا (۲)۔

(۳) جن چیزوں سے جنت قائم ہوتی ہے: سلف صالحین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ معین شخص پر قیام جنت کے بعد ہی کفر کا حکم لگایا جائے گا، لہذا اس بات کی معرفت ضروری ہے کہ کن چیزوں سے جنت قائم ہوتی ہے؟ جنت پہنچنے اور اس کے سمجھنے میں کیا فرق ہے؟ اور اس کے دلائل کیا ہیں؟ اس کے لئے تفصیل اور طالب علم کی جانب سے گہری توجہ درکار ہے، یہاں اس کے ذکر کی گنجائش نہیں (۳)۔

(۱) دیکھئے: مجموع فتاویٰ ابن تیمیہ، ۱۴۵/۳۵، و نواقض الایمان الاعتقادیہ و خوابط التکفیر عن الدلف، للدكتور محمد بن عبد اللہ الوییی، ۱/۲۰۹، و نواقض الایمان القولیہ والعملیہ، للدكتور عبد العزیز آل عبد اللطیف، ص ۵۲۔

(۲) تفصیل نواقض الایمان الاعتقادیہ لیلو ہی، میں دیکھئے: ۱/۲۰۹ تا ۲۱۷۔

(۳) مدل تفصیل کے لئے رجوع کیجئے: مرجع سابق ۱/۲۱۸، نیز دیکھئے: نواقض الایمان =

(۱) صحیح مسلم، ۱/۹۷۔

(۲) شرح امام نووی، ۲/۳۶۶۔

چوہی فصل: تکفیر سے مانع امور

کچھ چیزیں تکفیر سے مانع ہوتی ہیں جنہیں سمجھنا ضروری ہے، ان میں سے چند امور حسب ذیل ہیں:

(۱) جہالت ولا علمی: جہالت کے عذر کی کئی حالتیں ہیں، کیونکہ یہ عذر اوقات اور مقامات کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے اور لوگ بھی مختلف ہوتے ہیں، چنانچہ کچھ لوگوں پر جلت قائم ہو چکی ہوتی اور کچھ لوگوں پر جلت قائم نہیں ہوتی ہے، باس اعتبر کہ مثلاً وہ شخص نو مسلم ہے، یا تمدن سے دورخانہ بدوضی میں اس کی پروش ہوئی ہے، اسی طرح جہالت کا عذر اس ناجیہ سے بھی مختلف ہوتا ہے کہ آیا وہ دین اسلام کی کسی بدیہی طور پر معلوم امر سے جہالت ہے یا اس سے کمتر شے سے، چنانچہ یہ مطلب نہیں ہے کہ جہالت ولا علمی کے دعویدار ہر شخص کا عذر قابل قبول ہے، کیونکہ کچھ علم ایسے بھی ہیں جسے ایک بالغ صحیح العقل مسلمان کے ناجانے کی کوئی گنجائش نہیں، جیسے پنجوقتہ نمازیں اور یہ

(۲) ہر گناہ سے تکفیر نہ کرنا: اسی لئے امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:
 ”ولا نکفر أحداً من أهل القبلة بذنب مالم يستحله“ یعنی ہم اہل قبلہ میں سے کسی کو کسی گناہ کی بنا پر کافرنہیں قرار دیتے جب تک کہ وہ اسے حلال نہ سمجھے، مطلب یہ ہے کہ وہ ہر گناہ سے کافرنہیں ہو گا، چنانچہ اہل سنت اللہ عزوجل اور یوم آخرت پر ایمان لانے والے موحد مسلمان کو کسی گناہ مثلاً زنا، شراب خوری اور والدین کی نافرمانی وغیرہ کے ارتکاب کے سبب کافر نہیں قرار دیتے جب تک کہ وہ اسے حلال نہ سمجھے ہاں اگر اسے حلال سمجھے تو وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ ایسی صورت میں وہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلانے اور اس کے دین سے خروج کرنے والا ہو گا، لیکن اگر وہ اسے حلال نہ سمجھے تو کافرنہ ہو گا بلکہ کمزور ایمان والا قرار پائے گا اور اس سے سرزد گناہوں کا حکم تفصیل اور حدود قائم کرنے وغیرہ میں شریعت مطہرہ میں وارد دلائل کے مطابق ہو گا (۱)۔

==القولية والعلمية، عبد العزير آل عبد اللطيف، ص ۵۵ تا ۷۰۔

(۱) العقيدة الطحاوية، یعلیم علامہ عبد العزیز بن عبد اللہ بن باز رحمہ اللہ، ص ۱۶، نیزد یکھئے: نوافض الایمان الاعتقادیہ للوبیینی، ۱/ ۲۲۱۔

الْبَيْتَ الْكَنَّاْهُ وَهُوَ جَسْ كَاتِمِ دَلٍ سَرِادِهِ كَرُو۔
 اور نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے:
 ”إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمْتِي الْخَطَا وَالنَّسِيَانِ وَمَا
 اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ“ (۱)۔

اللہ تعالیٰ نے میری امت سے غلطی، بھول چوک اور ان چیزوں کو
 معاف کر دیا ہے جس پر انہیں مجبور کیا گیا ہو۔
 لیکن معلوم ہونا چاہئے کہ اس کے کچھ شرائط و ضوابط ہیں جو اہل علم کے
 یہاں معروف ہیں، یہاں ان کے ذکر کی گنجائش نہیں (۲)۔
 (۳) جبرا و کراہ: مذکورہ حدیث کی روشنی میں، نیز اللہ عز و جل کا ارشاد ہے:

﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقْلَهُ﴾

(۱) سنن ابن ماجہ، ۱/۲۵۹، حدیث (۲۰۲۳)، برداشت ابوذر رضی اللہ عنہ، نیز امام ابن ماجہ
 رحمہ اللہ نے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے: ”ان
 اللہ وضع عن أمتی ..“، و سنن بیہقی، ۷/۳۵۶، علامہ البانی نے اسے صحیح ابن ماجہ (۱/۳۷۸،
 ۳۲۸) میں صحیح قریدا ہے۔

(۲) دیکھیے: نوافض الایمان الاعقاد یہ محمد الوبی، ۱/۳۰۲ تا ۳۱۳۔

کہ بندوں پر اللہ کے لئے ماہ رمضان کے روزے، حج بیت اللہ کی
 استطاعت ہونے پر حج اور اپنے مال میں زکاۃ کی فرضیت، نیز یہ کہ اللہ تعالیٰ
 نے اس پر زنا، قتل، چوری، شراب اور اس قسم کی دیگر حرکتیں حرام قرار دی
 ہیں، مقصود یہ ہے کہ جہالت کے عذر کے لئے تفصیل، توجہ اور دقت فہم درکار
 ہے، جس کی تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں (۱)۔

(۲) خطا (غلطی): اللہ عز و جل کا ارشاد ہے:

﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكُنْ مَا تَعْمَدُتْ
 قُلُوبُكُمْ﴾ (۲)۔

تم سے بھول چوک میں جو کچھ ہو جائے اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں،

(۱) تفصیل کے لئے رجوع کیجئے: نوافض الایمان القولیہ والعملیہ، للدكتور عبد العزیز آل عبد
 الطیف، ص ۵۹ تا ۷۰، نوافض الایمان الاعقادیہ و ضوابط التغیر عند السلف، للدكتور محمد بن
 عبد اللہ الوبی، ۱/۲۲۵ تا ۳۰۲، اس بارے میں عبد الرزاق معاشر کا ”الجمل بمسائل الاعقاد
 و حکمه“، نامی ایک بہت سی عمدہ رسالہ ہے، جو کہ امام محمد بن سعود اسلامک یونیورسٹی میں علامہ محمد بن
 ناصر البراک کی زیر نگرانی ایک ایم اے کی ڈگری کے لئے کھاگیا ہے۔
 (۲) سورۃ الاحزاب: ۵۔

مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره فعليهم
غضب من الله ولهم عذاب عظيم ﴿١﴾۔

جو شخص اپنے ایمان لانے کے بعد اللہ سے کفر کرے بجز اس کے جس پر جرکی جائے اور اس کا دل ایمان پر برقرار ہو، مگر جو لوگ کھلے دل سے کفر کریں تو ان پر اللہ کا غضب ہے اور انہی کے لئے بہت بڑا عذاب ہے۔

اور جبراکراہ کی کئی فسمیں اور شرائط وضوابط ہیں جو علماء کے یہاں معروف ہیں، یہاں کے ذکر کا مکمل نہیں ﴿۲﴾۔

(۱) تاویل: یہاں تاویل سے مراد بلا قصد وارادہ کفر میں پڑنے اور ملوث ہو جانے کے ہیں جس کا سبب عدم مخالفت کے بغیر شرعی دلائل کا ناقص فہم ہو، بلکہ یہ عقیدہ ہو کہ وہ حق پر ہے۔

شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”کفار (ایک طرح کی)

(۱) سورۃ النحل: ۱۰۶۔

(۲) تفصیل نو قض الایمان الاعتقاد یہ لوگوںی، میں دیکھنے: ۲۵ تا ۳۸۔

وعید ہے، کیونکہ اگرچہ قول نبی کریم ﷺ کے فرمان کی تکذیب ہو لیکن با اوقات انسان نو مسلم ہوتا ہے یا دور صحرائیں اس کی پروش ہوتی ہوتی ہے، تو ایسے شخص کو اس کے انکار کے سبب کافرنہیں قرار دیا جائے گا، یہاں تک کہ اس پر حجت قائم ہو جائے، اور کبھی انسان نصوص نہیں سنتا ہوتا ہے، یا سننا ہوتا ہے لیکن اس کے نزدیک وہ ثابت (صحیح) نہیں ہوتے ہیں یا کوئی دوسری نص اس کے معارض ہوتی ہے جو تاویل کی موجب ہوتی ہے اگرچہ وہ ان تمام امور میں خطا کار ہو، ﴿۱﴾۔

لیکن جس تاویل کرنے والے کو معدود سمجھا جائے گا اس کے کچھ حدود اور شروع وضوابط ہیں جنہیں علماء جانتے ہیں، یہاں ان کے ذکر کی گنجائش نہیں ﴿۲﴾۔

(۱) مجموع فتاویٰ ابن تیمیہ، ۳، ۲۳۱، نیز دیکھنے: ۲/۲۲۸ تا ۲۲۳، ۲۸۲/۳، ۲۸۲/۱۲، ۵۲۳۔

(۲) تفصیل کے لئے دیکھیں: نو قض الایمان القولیہ والعملیہ، للہ کتو رب العزیز آل عبد اللطیف، ص ۲۷ تا ۸۳، و نو قض الایمان الاعتقادیہ وضوابط التّفیر عنده السلف، للہ کتو محمد بن عبد اللہ ابویہ، ۲/۲۰ تا ۳۸۔

جزویت اور تقسیم قبول کرنے والا منصب ہے، چنانچہ قدرت اور عاجزی (یعنی عدم قدرت) کا اعتبار ہے،^(۱)

شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی گفتگو سے ظاہر ہوا کہ تقلیداً کفر میں ملوث ہونے والے کو مذکور سمجھا جائے گا اگر وہ جاہل ہوا سے کوئی علم وبصیرت نہ ہو، یہاں تک کہ اس پر جھٹ قائم ہو جائے^(۲).

امام ابن قیم رحمہ اللہ رقطر از ہیں: ”رہے وہ اہل بدعت جو مسلمانوں کے موافق ہیں لیکن بعض اصول میں ان کے مخالف ہیں، تو ان کی کئی فتنیں ہیں: ان میں ایک وہ جاہل مغلد ہے جو علم وبصیرت سے عاری ہے ایسا شخص اگر علم وہدایت سیکھنے پر قادر نہ ہو تو نہ اسے کافر کہا جائے گا نہ فاسق اور نہ ہی اس کی شہادت رد کی جائے گی اور اس کا حکم ان کمزور مردوں عورتوں اور بچوں

(۱) فتاویٰ ابن تیمیہ، ۲۰۳ تا ۲۰۴، ۲۰۳ تا ۲۰۴، نیز دیکھئے: اضواء البيان للشققیلی، ۷/۷، ۳۸۹ تا ۳۸۷، ۳۸۷ تا ۳۸۶۔
 (۲) دیکھئے: فتاویٰ ابن تیمیہ، ۱۰۲/۲، ۱۰۷، ۱۳۱ تا ۱۳۲، ۳۷۸، ۳۷۹ تا ۳۷۲، و ۲۹۱/۱۹، ۳۷۹/۲۳۔

(۵) تقلید: شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”بما ہیر امت کا نہ ہب یہ ہے کہ عمومی طور پر اجتہاد جائز ہے اور عمومی طور تقلید بھی جائز ہے وہ ہر شخص پر اجتہاد کو ضروری قرار دیکر تقلید کو حرام نہیں کہتے ہیں اور نہ ہر شخص پر تقلید کو واجب قرار دیکر اجتہاد ہی کو حرام کہتے ہیں، نیز وہ یہ کہتے ہیں کہ جسے اجتہاد کی قدرت ہوا س کے لئے اجتہاد جائز ہے اور جو اجتہاد سے عاجز ہوا س کے لئے تقلید جائز ہے، اب رہا س شخص کا مسئلہ جو اجتہاد پر قادر ہو، کیا اس کے لئے تقلید جائز ہے، اس میں اختلاف ہے تھی یہ ہے کہ جب اجتہاد سے عاجز ہو خواہ دلائل کی کثرت کے سبب یا وقت کی تنگی کے سبب یا دلیل ظاہر نہ ہونے کے سبب تو تقلید جائز ہے، چنانچہ عاجزی کے وقت ہر وہ چیز اس سے ساقط ہو جائے گی جس سے وہ عاجز ہو گا اور وہ اس کے بد میل کی طرف منتقل ہو جائے گا، اور وہ تقلید ہے، جس طرح پانی سے پا کی کے حصول سے عاجز شخص کا حکم (تیم کی طرف منتقل ہو جاتا ہے)، اسی طرح سے اگر عام شخص کو (بھی) بعض مسائل میں اجتہاد کرنا ممکن ہو تو اس کے لئے اجتہاد کرنا جائز ہے، کیونکہ اجتہاد ایک

پانچویں فصل: تکفیر کی خطرناکی

سب سے پہلے ہمیں یہ اصول سمجھ لینا چاہئے کہ کسی بھی شخص پر کفر کا حکم لگانا بڑا سُکنگیں امر ہے کیونکہ اس پر بڑے ہی خطرناک اثرات مرتب ہوتے ہیں، ان میں سے چند اثرات حسب ذیل ہیں:

۱- اس کی بیوی کے لئے اس کے ساتھ رہنا جائز نہیں رہ جائے گا بلکہ ان دونوں کے درمیان جدائی پیدا کرنا ضروری ہو گا کیونکہ یقینی اجماع کی بنیاد پر کسی مسلمان خاتون کا کسی کافر مرد کی بیوی بننا جائز نہیں۔

۲- اس کے بچوں کا اس کے ماتحت رہنا جائز نہیں رہ جائے گا کیونکہ ان کے تعلق سے اس شخص پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ اپنے کفر سے انہیں بھی متاثر کر دے، خاص طور پر جب کہ وہ ابھی تروتازہ پودے کی مانند ہوں، اور یہ پچھے پورے اسلامی معاشرہ کی امانت ہیں۔

کی طرح ہو گا جنہیں نہ تو کسی چارہ کا رکھ سکی طاقت اور نہ کسی راستے کا علم ہے، بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کرے، اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور معاف فرمانے والا ہے،^(۱)

تقلید درحقیقت ایسے شخص کی بات کی اتباع کا نام ہے جس کی بات جدت نہیں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ تقلید کے عذر کے کچھ شرائط وضوابط ہیں جنہیں از بر کرنا ضروری ہے، جس کے ذکر کی یہاں گنجائش نہیں، اور اللہ ہی سے مدد طلب کی جاتی ہے^(۲)۔

(۱) الطرق الحکمیۃ فی السیاست الشرعیۃ، لابن القیم رحمہ اللہ ص ۲۷۴۔

(۲) تفصیل کے لئے دیکھئے: نو قض الایمان الاعقاد یہ وضوابط التکفیر عند السلف، للدكتور محمد بن عبد اللہ الوبیی، ۲/ ۳۶۹ تا ۴۵۔

۶- جب وہ اس (کفر کی) حالت میں مرے گا تو اللہ کی لعنت، اس کی رحمت سے دوری اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے کا مستحق ہو گا۔

یہ خطرناک احکام اس بات کا تقاضہ کرتے ہیں کہ جو اللہ کی مخلوق پر کفر کا حکم لگانا چاہتا ہو وہ حکم لگانے سے پہلے بارہا خوب سوچ سمجھ لے (۱)۔

۷- اس شخص کے لئے نہ دعا و رحمت کی جائے گی اور نہ ہی استغفار کیا جائے گا، کیونکہ اللہ عزوجل کا ارشاد ہے:

﴿ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمسركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم﴾ (۲)۔

نبی اور دوسرے مسلمانوں کے لئے جائز نہیں کہ مشرکین کے لئے مغفرت کی دعا مانگیں اگرچہ وہ رشتہ دار ہی ہوں، اس امر کے ظاہر

(۱) ظاہرۃ الغلوٰۃ التُّفَیْر، ص ۲۳، از ڈاکٹر یوسف قرضاوی، طبع دارالحجاد و دارالاعظام۔

(۲) سورۃ التوبہ: ۱۳۳۔

۳- وہ شخص اپنے صریح کفر اور کھلے ارتاداد کے ذریعہ معاشرہ کے خلاف بغاوت کرنے کے سبب اسلامی معاشرہ کی جانب سے نصرت اور دوستی کے حق سے محروم ہو جائے گا، لہذا واجب ہو گا کہ اس کا بائیکاٹ کیا جائے اور سوسائٹی کی جانب سے اس پر تادیبی پابندی عائد کی جائے یہاں تک کہ وہ ہوش کے ناخن لے اور اپنی رشد و ہدایت کی طرف پلٹے۔

۴- اس سے توبہ کرائے جانے، اس کے ذہن سے شبہات ختم کئے جانے اور اس پر جدت قائم کئے جانے کے بعد ضروری ہو جائے گا کہ اسے اسلامی عدالت کے سامنے پیش کر دیا جائے تاکہ عدالت اس پر مرتد کی حد نافذ کرے۔

۵- جب وہ مرے گا تو اس پر مسلمانوں کے احکام جاری نہیں کئے جائیں گے، چنانچہ نہ اسے غسل دیا جائے گا، نہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، نہ اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا اور نہ ہی کوئی اس کا وارث ہو گا، اسی طرح اگر اس سے پہلے کوئی اسے وارث بنانے والا شخص بھی مرتا تو اس کی وراثت نہ ملتی۔

ہونے کے بعد کہ یہ لوگ جہنمی ہیں۔

شیخ عبد الرحمن بن ناصر سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”کفر اللہ اور اس کے رسول ﷺ کا حق ہے لہذا کافروہی ہے جسے اللہ اور اس کے رسول کافر قرار دیں،“^(۱)۔

چھٹی فصل: بعض تعریفات و مفہوم

- | | | |
|--------|---------|---------|
| ۱-کفر | ۲-شرک | ۳-الحاد |
| ۴-نفاق | ۵-زندقة | ۶-بدعت |

(۱) کفر: (کَبَرْ بَرْ کے ساتھ) کے معنی چھپانے اور ڈھانپنے کے ہیں، جب کسان بیج کو زمین میں چھپا دیتا ہے تو کہا جاتا ہے: ”کفر الزارع البذر فی الارض“ اور ”کُفْر“ (کَبَرْ پیش کے ساتھ) ایمان کی ضد ہے اور ”کفر نعمة الله وبها كفوراً و كفراً“ کے معنی ہیں کہ فلاں نے اللہ کی نعمت کا انکار کیا اور اسے فراموش کر دیا (یعنی اس کی ناشکری کی) اور ”کافر حَقَّه“ کے معنی ہیں کہ فلاں نے فلاں کے حق کا انکار کر دیا، اور معظم کے وزن پر ”مَكْفُر“ اس شخص کو کہتے ہیں جس کے احسان و کرم کے باوجود اس کی نعمت کا انکار کر دیا گیا ہو، اور ”کافر“ کے معنی اللہ کی نعمت کا انکار

(۱) ارشاد اولی البصائر والاباب لغسل الفقہ، باقرب الطرق وايسر الاسباب، ص ۱۹۸۔

کر دینے والے کے ہیں (۱)۔

چنانچہ ”کفر“ کا معنی پرده ڈالنے اور حق کا انکار کرنے کے ہیں، اور ”کافر“ مسلم کی ضد ہے، اور ”مرتد“ اس شخص کو کہتے ہیں جو اسلام لانے کے بعد کسی قول، یا فعل، یا اعتقاد، یا شک کے ذریعہ کفر کرے، اور کفر کی ایسی تعریف جو اس کی تمام جنسوں، قسموں اور افراد کو شامل ہو یہ ہے: رسول اللہ ﷺ کی لائی ہوئی (تمام) یا ان میں سے بعض چیزوں کا انکار کرنا، جیسا کہ ایمان: رسول اللہ ﷺ کی لائی ہوئی تمام چیزوں کا اجمالي و تفصیلی طور پر عقیدہ رکھنے، اس کی پابندی کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کا نام ہے (۲)، اور کفر قرآن کریم میں ذکر کیا جانے والا سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ عز وجل کا ارشاد ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُمَّنْدَرُهُمْ أُمَّ لَمْ تَنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (۳)۔

بیشک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لئے سب برابر ہے، آپ انہیں ڈراٹیں یا نہ ڈراٹیں وہ ایمان نہیں لاسکتے۔

یہ (کفر) مطلق طور پر سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے، کفر سے بڑھ کر کوئی گناہ کبیرہ نہیں (۱)، اور کفر کی دو قسمیں ہیں:

(الف) وہ کفر جو انسان کو ملت اسلامیہ سے خارج کر دیتا ہے، وہ ”کفر اکبر“ (سب سے بڑا کفر) ہے۔

(ب) وہ کفر جو ملت سے خارج نہیں کرتا، یہ ”کفر اصغر“ (چھوٹا کفر) یا بڑے کفر (۲) سے کمتر کفر ہے (۳)۔

(۲) شرک: ”شرک“ اور ”شرکت“ دونوں کے معنی ایک ہی ہیں، اشتراك ، تشارک اور شارک اس کے مشتقات میں سے ہے ”اشترك بالله“

(۱) الكلمات النافعه في المفارات الواقعه، ص ۵۔

(۲) مجموع توحید، ارجح الاسلام ابن تیمیہ و شیخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب رحمہما اللہ، ص ۶۔

(۳) ان شاء اللہ اس کا بیان کفر کے اقسام پر گفتگو کے وقت آئے گا، دیکھئے: اس کتاب کا ص: (۱۵۹)۔

(۱) القاموس البحيط، فصل کاف، باب راء، و لمجم الوسیط، ص ۱۹۱۔

(۲) ارشاد اولی البصائر والاباب لعلی الفقہ باقرب الطرق والیسر الاسباب، از علامہ سعدی رحمہما اللہ، ص ۱۹۱۔

(۳) سورۃ البقرہ: ۶۔

۲- شرک اصغر: جو انسان کو ملت سے خارج نہیں کرتا (۱)۔

(۳) الحاد: ”الحاد، لحود، ولحد القبر“ منع کے وزن پر ہے، اور ”الحد“ کے معنی لحد بنانے کے ہیں، الحد المیت کا معنی ہے میت کو دفن کیا اور الحد الیہ کا معنی ہے اس کی طرف مائل ہوا جیسا کہ التحد کا مفہوم ہے، نیز ”الحد“ کے معنی مائل ہونے مڑنے بھگرنے اور بحث و مباحثہ کرنے کے ہیں (۲)۔ واضح رہے کہ جدید کشنریوں میں ”الحاد“ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور اس کی تفسیر کفر سے کی گئی ہے، اور قرآن کریم میں ”لحد“ کے مادہ کا جو معنی مفسرین نے سمجھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ اللہ عز و جل کے دین سے مائل ہو کر درجہ کفر تک پہنچ جانا ہے، نیز سورہ حج میں الحاد کی تفسیر مفسرین نے حرم میں کسی بھی قسم کے گناہ سے کیا ہے، البتہ حرم میں کئے گئے گناہ کا موازنہ جب غیر حرم کے گناہ سے کیا جائے گا تو حرم کا گناہ شدید تر ہو گا (۳)۔

(۱) شرک کے اقسام کی تفصیل اس کتاب کے ص (۱۶۷) میں لاحظہ فرمائیں۔

(۲) القاموس المحيط، فصل لام، باب دال، واجْمُ الْوَسِيْطَ، ص ۸۱۷۔

(۳) جهود المفکرین المسلمين الحمد لله في مقاومة التيار الالحادي، ص ۲۱۔

کا مفہوم ہے اللہ کے ساتھ کفر کیا، لہذا وہ مشرک یا مشرک قرار پایا، اور دونوں الفاظ سے اسم ”شرک“ ہی آتا ہے، اور ”رغبنا فی شرکكم“ کا مفہوم ہے ہم نے تمہارے نسب میں شرک ہونے کی خواہش کی (۱)۔

اور ”أشرك بالله“ کا معنی ہے اللہ کی بادشاہت یا اس کی عبادت میں اس کا شرک بنا یا، لہذا ”شرک“ کا معنی یہ ہے کہ آپ اللہ کا کوئی شرک ٹھہرائیں جب کہ اس نے آپ کو تھا پیدا کیا ہے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، نیز شرک اعمال کو ضائع و بر باد کرنے والا اور ثواب سے محروم کرنے والا ہے، چنانچہ جس کسی نے محبت، عبادت یا تعظیم میں اللہ کے علاوہ کو اللہ کے برابر قرار دیا یا ملت ابراہیمی کے مخالف نقوش اور مبادی کی پیروی کی وہ مشرک ہے (۲)۔

شرک کی دو قسمیں ہیں:

۱- شرک اکبر: جو انسان کو ملت سے خارج کر دیتا ہے۔

(۱) القاموس المحيط فصل شین، باب کاف، واجْمُ الْوَسِيْطَ، ص ۳۸۰۔

(۲) الاجوبۃ المفیدۃ لمحماۃ الحقیقتہ عبد الرحمن الدوسی، ص ۳۱۔

اور ”نفقة“ اور ”نافقاء“ گوہ اور جنگلی چوہے کے بل کو کہتے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ ”نفقة“ اور ”نافقاء“ جنگلی چوہے کے بل میں ایک جگہ ہوتی ہے جسے وہ نرم کرتا ہے، چنانچہ جب بل کے ایک سوراخ سے کوئی اس کی جانب آتا ہے تو وہ بل کی دوسری جانب نرم حصہ کو اپنے سر سے مار کر باہر نکل جاتا ہے، اور ”نفق الیربوع“ (نفق زبر کے ساتھ) و انتفق و نفق“ کا معنی ہے کہ جنگلی چوہا اپنی جگہ سے نکل گیا، اور ”نفق الیربوع تنفيقاً ونافق“ کے معنی ہیں اپنے نافقاء (سوراخ) میں داخل ہوا۔

دین اسلام میں منافقت کرنے والے کے معنی میں مستعمل لفظ ”منافق“، اسی سے مشتق ہے، اور ”نفاق“ (آن کے کسرہ کے ساتھ) منافق کے عمل کو کہتے ہیں۔ نفاق کے معنی ایک طرف سے اسلام میں داخل ہونے اور دوسری طرف سے اس سے نکل جانے کے ہیں (۱)۔

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

(۱) النفاق وآثاره ومخالفاته، تالیف الشیخ عبد الرحمن الدوسري ص: ۱۰۵، ۱۰۶۔

فضیلت آب شیخ عبد الرحمن الدوسري رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”الحاد مختلف عقائد اور (باطل) تاویلات کے ذریعہ حق سے مائل ہونے اور مخترف ہو جانے کے ہیں، اسی لئے بغلی قبر کو مخد کہا جاتا ہے کیونکہ وہ درمیانی حصہ سے کسی ایک جانب مائل ہوتی ہے، چنانچہ اسی بنیاد پر فاسد تاویل اور شک و شہہ طاہر کر کے اللہ کی راہ سے انحراف اور اس کے حکم سے سرتاہی کرنے والے کو مخد کہا جاتا ہے... اور سب سے پہلے مخد وہ مشرکین ہیں جنہوں نے اللہ کے ناموں سے اپنے معبدوں ان بالطہ کے نام مشتق (اخذ) کئے، جیسے لات اور عزیزی اور ”آل“، جو کہ اللہ ہے... پھر جس نے بھی اللہ عز وجل کے اسماء و صفات میں الحاد کیا اور انہیں ان کے ظاہری معانی سے پھیرا... وہ مخد ہے، (۱)۔

۲- نفاق: ”نفق“ زمین کے سرگن کو کہتے ہیں جس میں دوسری جگہ سے شگاف ہو، ”تهذیب اللغو“ میں ہے کہ جس میں دوسری جگہ سے نکلنے کا راستہ ہو۔

(۱) الاجوبة المفيدة لمحات العقيدة لعبد الرحمن الدوسري، ص: ۳۰۔

(۲) نفاق عملی: یہ بڑے بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔
ابن حجر عسکر فرماتے ہیں: ”منافق کے گفتار و کردار ظاہر و باطن، مخل و
مخج اور حاضر و غائب میں تضاد ہوا کرتا ہے“ (۱)۔
نفاق کی دو قسمیں ہیں:
۱- نفاق اکبر: جو منافق کو ملت اسلامیہ سے خارج کر دیتا ہے۔
۲- نفاق اصغر: جو ملت سے خارج نہیں کرتا (۲)۔
۵- زندقہ: ”زندقی“ (زاء کے کسرہ کے ساتھ) فرقہ شیعیہ کے فردیانور
ظلمت کے قائل یا ربویت اور یوم آخرت کے منکر یا کفر چھپانے اور ایمان
ظاہر کرنے والے کو کہتے ہیں (۳)۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ رقطر از ہیں: ”فقہاء کی اصطلاح میں

(۱) تفسیر ابن کثیر /۱، ۲۸، آیت کریمہ: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾ [سورۃ البقرۃ: ۸] کی تفسیر میں، نیزد لکھتے تفسیر ابن حجر طبری /۱/
۲۲۲۶۸۔

(۲) نفاق کے اقسام کی تفصیل، اس کتاب کے ص (۱۹۲۱۸۸) میں ملاحظہ فرمائیں۔
(۳) القاموس المجید، فصل زای، باب قاف، ص ۱۱۵۔

”لتبعدون عن سنن الذين من قبلكم، شبراً بشبرٍ، وذراعاً
بذراعٍ، حتى لو دخلوا في جحر ضبٍ لا يعتنون به“
قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال:
”فمن“؟ (۱)۔

تم لوگ ضرور بالضرور اپنے سے پہلے لوگوں کی راہوں کی پیروی
کرو گے، بالشت پہ بالشت اور ہاتھ پہ ہاتھ، یہاں تک کہ اگر وہ کسی
گوہ کے سوراخ میں داخل ہوں گے تو ان کی پیروی میں تم اس میں
بھی داخل ہو گے، ہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ کیا
یہود و نصاری کی؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”پھر اور کس کی؟“۔

نفاق کا شرعی مفہوم:

جیسا کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا ہے: ”نفاق کے معنی خیر ظاہر
کرنے اور شر چھپانے کے ہیں، اور اس کی کئی قسمیں ہیں:

(۱) نفاق اعتمادی: اس کا مرکب ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔

(۱) صحیح مسلم /۲، ۲۰۵۲۔

﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيادةً فِي الْكُفْر﴾ (۱)-

مہینوں کا آگے پچھے کر دینا کفر میں زیادتی ہے۔

اسی طرح نماز یا اس کے علاوہ دیگر ارکان کا تارک یا کبیرہ گناہوں کے مرتكبین (بھی) اسی حکم میں شامل ہیں، جیسا کہ اللہ عزوجل نے آخرت میں بعض کافروں کے مقابل بعض کو زیادہ عذاب دینے کی خبر دی ہے، ارشاد باری ہے:

﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَاب﴾ (۲)-

جہنوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا ہم انہیں عذاب پر عذاب بڑھاتے جائیں گے۔

یا اس باب میں ایک بڑا ہم اور بنیادی مسئلہ ہے جس کی معرفت ضروری ہے ”ایمان و کفر کے مسائل“، میں گفتگو کرنے والے بہت سے لوگوں نے

(۱) سورۃ التوبہ: ۳۷۔

(۲) سورۃ الحلق: ۸۸۔

زنداق نبی کریم ﷺ کے زمانہ کے منافق کو کہتے ہیں، وہ اس طرح کہ اسلام ظاہر کرے اور اسلام کے علاوہ کچھ (اور) چھپائے رکھے، چاہے کوئی دین چھپائے جیسے یہود و نصاریٰ وغیرہ کا دین، یا وہ منافق معطل (صفات الہی کا منکر) اور خالق کائنات، آخرت اور اعمال صالحہ کا منکر ہو۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ: زنداق صانع (خالق) اور صفات الہی کے منکر (معطل) کو کہتے ہیں، یہ نام (تعريف) بہت سے اہل کلام، عوام اور لوگوں کی باتیں نقل کرنے والوں کی اصطلاح میں ہے، لیکن وہ زنداق جس کے حکم کے سلسلہ میں فقهاء گفتگو کرتے ہیں وہ اول الذکر تعريف ہے، کیونکہ ان کا مقصد کافروں غیر کافر، مرتد و غیر مرتد اور اس کے ظاہر کرنے یا چھپانے والے کے درمیان فرق کرنا ہوتا ہے، اور اس حکم میں کفار و مرتدین کی تمام فسمیں، خواہ کفر و ارتداد میں ان کے درجات مختلف ہی کیوں نہ ہوں، شامل ہیں، کیونکہ اللہ عزوجل نے جس طرح زیادتی ایمان کی خبر دی ہے اسی طرح زیادتی کفر کی بھی خبر دی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد ہے:

کسی مثال سابق کے ایجاد کیا ہو)۔
الغرض ”بدع“ کا لفظ کسی چیز کے بلا کسی مثال سابق ایجاد کے لئے ہی بولا جاتا ہے، اور اسی سے ارشاد باری: ﴿بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (۱)
بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بلا کسی مثال سابق کے آسمانوں اور زمین کو وجود دخشنے والا ہے (۲)۔

شریعت کی اصطلاح میں اہل علم نے بدعت کی مختلف تعریفیں کی ہیں، جن میں سے بعض تعریفیں بعض کا تتمہ ہیں، چند تعریفیں درج ذیل ہیں:
الف - شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”دین اسلام میں بدعت ہر اس امر کو کہتے ہیں جسے نہ اللہ تعالیٰ نے مشروع کیا ہو، نہ ہی اللہ کے رسول ﷺ نے، یعنی جس کی کوئی شرعی حیثیت نہ ہو، نہ واجب نہ مستحب“ (۳)۔

(۱) مجم المقايس في اللغة لابن فارس، ج ۱۱۹۔

(۲) سورة البقرة: ۷۷، وسورة الانعام: ۱۰۱۔

(۳) الاعتصام لشاطبی، ج ۱/ ۳۹۔

(۴) فتاویٰ ابن تیمیہ، ج ۲/ ۱۰۸، ۱۰۷۔

اس باب کو منظر نہیں رکھا اور نہ ہی ظاہری و باطنی حکم کے درمیان تمیز کی جب کہ ظاہری و باطنی حکم کے درمیان فرق متواتر نصوص اور معروف اجماع کے ذریعہ ثابت ہے، (یہی نہیں) بلکہ یہ چیز دین اسلام میں بدینہی طور پر معلوم ہے، جو شخص اس میں غور کرے گا اسے اس بات کا علم ہو جائے گا کہ اہل اہواء و بدعتات میں بہت سارے لوگ کبھی مومن خطا کار اور رسول اللہ ﷺ کی لائی ہوئی بعض چیزوں سے جاہل و بے خبر ہوتے ہیں، اور کبھی (واقعی) باطن کے خلاف ظاہر کرنے والے منافق اور زنداق ہوتے ہیں (۱)۔

(۲) بدعت کا لغوی مفہوم: بدعت عربی زبان میں دین کی تکمیل کے بعد اس میں کسی نئی چیز کے اضافہ کو کہتے ہیں، یا ہر اس من مانی قول یا عمل کو کہتے ہیں جس کو نبی کریم ﷺ کے بعد ایجاد کیا گیا ہو۔ (۲) کہا جاتا ہے: ”ابتدعت الشيء“ میں نے فلاں شے ایجاد کی، جب کوئی قول یا عمل بلا

(۱) فتاویٰ شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ج ۲/ ۱۷۲۔

(۲) القاموس الحجیط، باب عین، فصل دال، ج ۶، ۹۰۶، ولسان العرب، ج ۸/ ۶، وفتاویٰ ابن تیمیہ، ج ۲/ ۳۵۲۔

اور بدعت کی دو قسمیں ہیں:

۱- اقوال و عقائد میں۔ ۲- اعمال و عبادات میں۔

دوسری قسم پہلے کو شامل ہے اور پہلی قسم دوسرے کا باعث و محرک ہے (۱)۔

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور دیگر ائمہ کرام کے نزدیک اعمال و قسم کے

ہوتے ہیں۔ ۱- عادات۔ ۲- عبادات۔

عبادات میں اصل یہ ہے کہ مشروع عبادت صرف وہی ہے جسے اللہ نے مشروع فرما دیا ہے، جبکہ عادات میں اصل یہ ہے کہ جن امور سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمادیا ہے ان کے علاوہ کسی بات سے منع نہ کیا جائے، (۲)۔

نیز فرماتے ہیں: ”بدعت وہ عقائد و عبادات ہیں جو کتاب اللہ، سنت رسول ﷺ اور اجماع امت کے خلاف ہوں، جیسے خارج، رواض، قدریہ، جہمیہ وغیرہ کے اقوال (باتیں)، اسی طرح ان لوگوں کی عبادتیں جنہوں نے مسجدوں میں ناچنے، گانے، واڑھیاں منڈانے اور حشیشہ (بھنگ) پینے کو عبادت سمجھ رکھا ہے، یہ اور اس طرح کی دیگروہ بہت سی عبادتیں بدعت کے

(۱) فتاویٰ ابن تیمیہ، ۱۸/۳۳۶، تیزدیکھنے: مرجع سابق، ۳۵/۳۱۲۔

(۲) مرجع سابق، ۲/۱۹۶۔

قبل سے ہیں جنہیں کتاب و سنت کے مخالفین عبادت سمجھ کر انجام دیتے ہیں، واللہ اعلم، (۱)۔

ب- امام شاطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”بدعت دین اسلام میں ایجاد کردہ وہ طریقہ ہے جو بہ ظاہر شریعت کے مشابہ ہو، جس پر چل کر اللہ کی عبادت میں مبالغہ مقصود ہو“،

یہ تعریف ان لوگوں کی رائے کے مطابق ہے جو بدعت کو عبادات کے ساتھ خاص کرتے ہوئے عادات کو اس سے خارج سمجھتے ہیں، البتہ عادتی امور کو بدعت میں شامل سمجھنے والوں کے نزدیک بدعت کی تعریف یوں ہے: ”بدعت دین اسلام میں ایجاد کردہ ہر وہ طریقہ ہے جو بظاہر شریعت کے مشابہ ہو، جس پر چل کر وہی مقصود ہو جو شریعت سے مقصود ہوتا ہے“، (۲)۔ پھر امام شاطبی رحمہ اللہ نے اپنی دوسری تعریف کی روشنی میں یہ ثابت کیا ہے کہ عادات چونکہ عام امور زندگی سے تعلق رکھتی ہیں اس لئے ان میں بدعت نہیں ہوتی، البتہ انہیں عبادت سمجھ کر انجام دیتے جانے، یا عبادت کے

(۱) فتاویٰ ابن تیمیہ، ۱۸/۳۳۶، تیزدیکھنے: مرجع سابق، ۳۵/۳۱۲۔

(۲) الاعتصام لابی اسحاق ابراہیم بن موسی الشاطبی، ۱/۵۰۵ تا ۵۱۰۔

سے لغوی معنی میں بدعت مراد ہے، نہ کہ شرعی اصطلاح میں، چنانچہ اسی قبل سے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا قول بھی ہے جب انہوں نے رمضان المبارک میں لوگوں کو ایک امام کی اقتداء میں باجماعت تراویح ادا کرنے کے لئے جمع کیا اور پھر لوگوں کو ایک امام کی اقتداء میں باجماعت تراویح ادا کرتے دیکھ کر فرمایا:

”نعمت البدعة هذه“ (۱)۔

لتنی اچھی بدعت ہے یہ!

عمر رضی اللہ عنہ کے فرمان کا مطلب یہ تھا کہ یہ عمل اس شکل میں اس وقت سے پہلے انجام نہ دیا جاتا تھا، البتہ شریعت میں اس کے اصول و دلائل موجود تھے جن سے یہ مسئلہ مستنبط تھا، علی وجہ المثال چند دلائل حسب ذیل ہیں:

- ۱- نبی کریم ﷺ صاحبۃ کرام رضی اللہ عنہم جمعیں کو قیام رمضان پر ابھارتے اور اس کی رغبت دلاتے تھے، اور صحابۃ کرام نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں مسجد میں مختلف جماعتوں میں اور انفرادی طور پر بھی قیام اللیل ادا کرتے تھے، اور خود آپ ﷺ نے بھی صحابۃ کرام کوئی راتیں باجماعت

(۱) دیکھئے: صحیح بخاری، حدیث (۲۰۱۰)۔

قام مقام سمجھنے کے سبب ان میں بدعت داخل ہو جاتی ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ امام شاطبی رحمہ اللہ نے دونوں تعریفوں کے درمیان تطبیق دی ہے اور جن امور میں تعبد لازمی ہے، ان کی مثال خرید و فروخت، نکاح و طلاق، اجارہ داری اور جرائم و خصومات وغیرہ سے دی ہے، کیونکہ یہ امور کچھ ایسے شرعی شرائط و ضوابط سے مقید ہیں جن میں مکف کا کوئی اختیار نہیں (۱)۔

رج- حافظ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں: (۲) ”بدعت سے مراد وہ نو ایجاد کردہ امور ہیں جن کی شریعت میں کوئی اصل نہ ہو، رہے وہ امور جن کی اصل شریعت میں موجود ہے تو وہ شرعاً بدعت نہیں کہلاتیں گے، گو لوغوی اصطلاح میں بدعت ہیں، چنانچہ جس نے بھی کوئی ایسی چیز ایجاد کر کے دین کی طرف منسوب کی جس کی دین میں کوئی اصل نہیں تو وہ گمراہی ہے، اور دین اس سے بُری ہے، چاہے وہ اعتقادی مسائل ہوں، یا اعمال و اقوال ہوں، خواہ ظاہری ہوں یا باطنی۔

سلف صالحین سے کچھ بدعتوں کے استحسان کی جو بات منقول ہے ان

(۱) الاعتصام للشاطبی، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰ / ۲۔

(۲) جامع العلوم والحكم، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹ / ۲، ہمومی تصرف کے ساتھ۔

دوسراباہ:

تکفیر کے باب میں اہل سنت و جماعت کا موقف

☆ پہلی فصل: اہل سنت کا موقف اور ان کی دلیل۔

پہلا بحث: اہل سنت و جماعت کا موقف۔

دوسرہ بحث: ان کے موقف کی دلیل۔

☆ دوسری فصل: کفر کی قسمیں اور خطرناک تکفیری امور۔

پہلا بحث: کفر کی قسمیں۔

پہلا مطلب: وہ کفر جو ملت اسلامیہ سے خارج کر دیتا ہے۔

دوسرہ مطلب: وہ کفر جو ملت اسلامیہ سے خارج نہیں کرتا۔

دوسرہ بحث: اسلام کو توڑنے اور اس میں نقص پیدا کرنے والے امور۔

پہلا مطلب: شریعت کی خلاف ورزیوں کی قسمیں۔

دوسرہ مطلب: خطرناک اور بکثرت واقع ہونے والے نواقض اور تکفیری امور۔

تیسرا مطلب: نفاق کی قسمیں۔

چوتھا مطلب: قبروں کے پاس انجام دیجانے والی بدعاں کی قسمیں۔

تیسرا بحث: تکفیری امور کی بنیادیں۔

قیام اللیل پڑھایا، اور پھر اس خوف سے رک گئے کہ کہیں امت پر قیام اللیل (تروتھ) فرض نہ ہو جائے، اور لوگ اس کی ادائیگی نہ کر سکیں، اور یہ خوف نبی کریم ﷺ کی وفات کے بعد جاتا رہا (۱)۔

۲- نبی کریم ﷺ نے اپنے خلفاء راشدین کی اتباع اور پیروی کا حکم دیا ہے، اور یہ عمل خلفاء راشدین کی سنتوں میں سے ہے (۲)۔

بدعت کی دو قسمیں ہیں:

۱- بدعت مکفرہ: یہ وہ بدعت ہے جس کا مرتكب دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔

۲- بدعت مفسقة: یہ وہ بدعت ہے جس کا مرتكب دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا (۳)۔

(۱) دیکھئے: صحیح بخاری، حدیث (۲۰۱۲)۔

(۲) جامع العلوم و الحجۃ، ۱۲۹/۲۔

(۳) دیکھئے: الاعتصام لشاطبی، ۵۱۶/۲، اور زیر نظر کتاب کاص (۱۹۸۵)۔

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

”افسرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقةً فواحدة في الجنة وسبعون في النار، وافتقرت النصارى على اثنتين وسبعين فرقةً فإحدى وسبعون في النار وواحدة في الجنة، والذي نفسي بيده لتفترقنْ أمتي على ثلات وسبعين فرقةً، فواحدة في الجنة واثنتان وسبعون في النار“ (۱)۔

یہودا کہتر فرقوں میں تقسیم ہوئے، ان میں سے ایک جنتی ہے اور ستر جہنمی، اور نصاریٰ (عیسائی) بہتر فرقوں میں تقسیم ہوئے، ان میں سے صرف ایک جنتی ہے اور کہتر جہنمی، اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یقیناً میری امت تہتر فرقوں میں تقسیم ہوگی، ان میں سے صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا، اور بہتر فرقہ جہنمی

(۱) سنن ابو داود، ۱۹۷/۲، و مسند احمد، ۳۳۲/۲، و جامع ترمذی، ۲۵/۵، و سنن ابن ماجہ، ۱۳۲/۲، برداشت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ، نیزد کیھٹے: صحیح الجامع الصغير لابن حیان، ۱/۳۵۷۔

پہلی فصل: اہل سنت کا موقف اور ان کی دلیل پہلا مبحث: اہل سنت و جماعت کا موقف۔

نبی کریم ﷺ نے اپنی وفات کے بعد اپنی امت کے تہتر فرقوں میں تقسیم ہو جانے کی خبر دی ہے نیز آپ نے یہ بھی بتایا ہے کہ ان میں سے ایک فرقہ نجات پائے گا اور بقیہ فرقے جہنم رسید ہوں گے، چنانچہ آپ سے نجات یافتہ جماعت اور اس کی صفت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے بتایا کہ وہ لوگ وہ ہوں گے جو آپ اور آپ کے صحابہ کرام کے نقش قدم پر گامزن ہوں گے، اور آج ہم امت کے فرقوں میں سے اہل سنت و جماعت کے علاوہ کسی اور کو نبی کریم ﷺ اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے موافق نہیں پاتے (۱)۔

(۱) الفرق میں الفرق عبد القاهر بن طاہر البغدادی، ص ۳۱۸، قدرے تصرف کے ساتھ۔

ہوں گے۔

اہل سنت و جماعت ہی اہل حق ہیں اور ان کے علاوہ بقیہ فرقے اہل بدعت ہیں، اہل سنت نسلًا بعد نسل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ان کے نجح پر گام زن چیدہ تابعین، پھر اصحاب الحدیث (محمد شین) اور آج تک ان کے پیر و کارفہاء اور مشرق و مغرب میں منتشر ان کے عام تبعین رحمہم اللہ ہیں (۱)۔

اہل سنت و جماعت اللہ کے اسماء حسنی اس کی آیات اور صفات کے باب میں اہل تعطیل اور اہل تمثیل کے درمیان ہیں، اہل تعطیل وہ لوگ ہیں جو اللہ کے اسماء اور اس کی آیات میں الحاد سے کام لیتے ہیں اور اللہ نے اپنی ذات کو جن صفات سے متصف کیا ہے ان کے حقائق کی نفی کرتے ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے اللہ کو معدوم اور مردوس کے مشابہ قرار دیا ہے، اور اہل تمثیل وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لئے مثالیں بیان کرتے ہیں اور اسے اس کی مخلوقات سے تشییہ دیتے ہیں، چنانچہ اہل سنت ان صفات پر ایمان رکھتے ہیں جن سے اللہ نے

(۱) انفصل فی اُملل وَالاَهْوَاءِ وَالْخَلَّ لابن حزم، ۲/۱۳۸۔

اپنی ذات کو متصف کیا ہے یا اس کے رسول نے اسے متصف کیا ہے، نہ کسی قسم کی تحریف کرتے ہیں، نہ نفی کرتے ہیں، نہ ہی کیفیت بیان کرتے ہیں اور نہ تمثیل سے کام لیتے ہیں، نیز اللہ کی تخلیق اور امر کے باب میں اللہ کی قدرت کو جھٹلانے والوں اور اللہ کے دین کو خراب کرنے والوں کے درمیان ہیں، اللہ کے دین کو جھٹلانے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی قدرت کاملہ مشیت عامہ اور اس کے ہر چیز کے خالق ہونے پر ایمان نہیں لاتے، اور اللہ کے دین کو خراب کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بندوں سے کلی طور پر مشیت، قدرت اور عمل کی نفی کرتے ہیں اور امر، نبی، ثواب، اور عذاب وغیرہ کا انکار کر کے ان مشرکین کے مثل ہو جاتے ہیں جنہوں نے کہا تھا:

﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكَنَا وَلَا آباؤنَا وَلَا حَرَمَنَا مِنْ شَيْءٍ﴾ (۱)۔

اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے آبا و اجداد اور نہ ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔

چنانچہ اہل سنت اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر

(۱) سورۃ الانعام: ۱۳۸۔

صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو جھلاتے ہیں، اور ”مرجحہ“ جو کہتے ہیں کہ فاسقوں کا ایمان ان بیانات علیہم الصلاۃ والسلام کے ایمان کے مثل ہے اور اعمال صالحہ دین اسلام میں داخل نہیں ہیں اور وعدہ و عذاب کا بالکلیہ انکار کرتے ہیں۔

چنانچہ اہل سنت و جماعت اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ فاسق مسلمانوں کے پاس ”کچھ“ اور ”اصل ایمان“ ہوا کرتا ہے، ان کے پاس وہ مکمل واجبی ایمان نہیں ہوتا ہے جس سے وہ مستحق جنت قرار پائیں لیکن وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں بھی نہیں رہیں گے بلکہ ان میں سے جس کے بھی دل میں ایک دانہ یارائی کے دانہ کے برابر ایمان ہو گا اسے جہنم سے نکالا جائے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شفاعت اپنے امت کے کبیرہ گناہوں کے مرتكبین کے لئے ذخیرہ کر رکھی ہے۔

نیز اہل سنت صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غالیہ اور جافیہ کے درمیان ہیں ”غالیہ“ جو علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں غلو سے کام لیتے ہیں، انہیں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے افضل قرار دیتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ (علی رضی اللہ عنہ) امام معصوم ہیں اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما معصوم

ہے، اسے بندوں کو ہدایت دینے اور ان کے دلوں کو پلنے (پھیرنے) کی قدرت ہے، اور یہ کہ وہ جو چاہے وہی ہو گا اور جونہ چاہے وہ نہیں ہو سکتا، اس کی چاہت کے بغیر اس کی سلطنت میں کوئی چیز وقوع پذیر نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی وہ اپنی چاہت کی تنفیذ سے عاجز ہے، نیز یہ کہ وہ اعیان، صفات اور حرکات تمام چیزوں کا خالق ہے، اور اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ بندہ بھی قدرت، مشیت اور عمل کا مالک اور صاحب اختیار ہے، اسے مجبور کے نام سے موسم نہیں کرتے، کیونکہ مجبور اسے کہتے ہیں جسے اپنی چاہت کی نفاذ سے مجبور کیا گیا ہو، اللہ عز و جل نے بندے کو اپنے فعل کا اختیار دیا ہے چنانچہ وہ صاحب اختیار و ارادہ ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا اور اس کے اختیار و ارادہ کا خالق ہے اور اس کی کوئی مثال نہیں، کیونکہ اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں نہ اس کی ذات میں نہ صفات میں اور نہ اس کے افعال میں۔

اور اہل سنت اسماء، احکام اور وعدو و عید کے باب میں وعید یہ اور مرجحہ کے درمیان ہیں۔ ”وعید یہ“ جو کہ مسلمانوں میں سے کبار کے مرتكبین کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے مستحق جہنم اور ایمان سے بالکلیہ خارج سمجھتے ہیں نیز نبی کریم

چنانچہ اہل سنت کہتے ہیں کہ بندہ اگر گناہ سے توبہ کر لے تو اس کی مغفرت ہو جائے گی اور اگر توبہ نہ کرے تو وہ اللہ کی مشیت تھے ہوگا، اگر اللہ چاہے تو اسے بخش دے اور چاہے تو عذاب دے کیونکہ اللہ عزوجل کا ارشاد ہے:

﴿قُلْ يَا عَبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنُطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ﴾ (۱)۔

آپ کہہ دیجئے! کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے ما یوس نہ ہو، بیشک و بخشنے والا مہربان ہے، اور اپنے رب کی طرف رجوع ہو جاؤ اور اس کے تابع فرمان بن جاؤ۔

یہ مذہب ان دونوں مذاہب کے درمیان ہے جن میں سے ایک فریق کہتا ہے کہ ایمان کے ساتھ کوئی گناہ مضر نہیں اور دوسرا فریق وعدید کا قائل ہے بایں طور کہ کبیرہ گناہ کا مرتب جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔

(۱) سورۃ الزمر: ۵۳، ۵۲۔

نہیں، اور یہ کہ صحابہ نے -نعواز باللہ - ظلم و نا انصافی سے کام لیا ہے، نیز انہوں نے ان کے بعد امت کو فاسق اور کافر قرار دیا، اور بسا اوقات علی رضی اللہ عنہ کو نبی کریم ﷺ اور اللہ تعالیٰ کے مقام پر لاکھڑا کیا، اور ”جائیہ“ جو علی اور عثمان رضی اللہ عنہما کے کفر کا عقیدہ رکھتے ہیں اور ان دونوں اور ان سے محبت رکھنے والوں کا خون حلال سمجھتے ہیں اور ان دونوں کو گالی دینا (برا بھلا کہنا) مستحب سمجھتے ہیں اور علی رضی اللہ عنہ کی خلافت و امامت میں قدر ح اور طعن و شنیع کرتے ہیں۔

اسی طرح اہل سنت و جماعت سنت کے تمام ابواب میں وسط ہیں کیونکہ وہ اللہ کی کتاب (قرآن کریم)، اس کے رسول کی سنت اور جس چیز پر سابقین اولین مہاجرین و انصار اور ان کے پچھے یعنی متفق ہیں اسے لازم پکڑنے والے ہیں (۱)۔

رہائیکر کے باب میں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ تو وہ مذہب ارجاء اور وعدید یہ کہ درمیان ہیں:

(۱) فتاویٰ شیخ الاسلام ابن تیمیہ ۳/۳۴۳۷-۳۴۳۸۔

اس سورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کیا ہے، سو جو لوگ
ایمان والے ہیں اس سورت نے ان کے ایمان کو زیادہ کیا ہے اور وہ
خوش ہو رہے ہیں۔
اور کبیرہ کا مرکتب ناقص الایمان ہوتا ہے، اپنے ایمان کے سبب مومن
اور ارتکاب کبیرہ کے سبب فاسق ہوتا ہے۔

اسی طرح اہل سنت اصحاب رسول کے بارے میں بھی وسط ہیں، وہ
کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سب کے سب عادل تھے، البتہ انہیں
کفر سے کمزور گناہوں سے بھی مخصوص نہیں قرار دیتے، لیکن (یہ عقیدہ رکھتے
ہیں کہ) ان کے پاس اس قدر نیکیاں ہیں جو ان کے گناہوں پر چھائی ہوئی
ہیں، اور انہیں ان کے اس مقام و مرتبہ پر رکھتے ہیں جس پر اللہ اور اس کے
رسول نے رکھا ہے، چنانچہ علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں غلو سے کامنہیں
لیتے اور نہ ہی ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی تکفیر کرتے ہیں، بلکہ ان سب سے
محبت کرتے ہیں، اور علی و معاویہ رضی اللہ عنہما کو گمراہ نہیں کہتے بلکہ (یہ عقیدہ
رکھتے ہیں کہ) امت میں سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی

اور اہل سنت کہتے ہیں کہ بندوں کو اطاعت کا حکم دیا گیا ہے اور معصیت
سے منع کیا گیا ہے، گناہ کے ارتکاب پر عذاب سے دو چار ہوں گے اور
اطاعت کرنے پر ثواب کے مستحق ہوں گے، چنانچہ گناہ سے اگر تائب نہ
ہوں گے تو عذاب کے مستحق قرار پائیں گے الایہ کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول
فرمائے (اور اپنی رحمت سے معاف کر دے)۔

اور اہل سنت و جماعت کے نزدیک ایمان میں کمی اور زیادتی واقع ہوتی
ہے، زیادتی اطاعت سے اور کمی گناہ سے واقع ہوتی ہے (۱)۔
ارشاد باری ہے:

﴿وَإِذَا مَا أُنزِلت سُورَةً فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ
إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ
يَسْتَبِّشُونَ﴾ (۲)۔

اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو بعض منافقین کہتے ہیں کہ

(۱) الاجوبة المفيدة على اسئلة العقيدة، ج ۵۸۔

(۲) سورة التوبہ: ۱۲۳۔

رضی اللہ عنہم وارضاہم (۱)۔

امام طحاوی رحمہ اللہ مزید فرماتے ہیں: ”ہم اپنے قبلہ والوں کو جب تک وہ نبی کریم ﷺ کی لائی شریعت کے معترف ہوں اور آپ کے ہر فرمان اور ہر خبر کی تصدیق کرنے والے ہوں، مسلمان و مومن کہتے ہیں، رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

”من صلی صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له مالنا وعليه ما علينا“ (۲)۔

جس نے ہماری نماز پڑھی، ہمارے قبلہ کا استقبال کیا اور ہمارا ذیبھ کھایا وہ مسلمان ہے، جو ہمارے لئے ہے وہی اس کے لئے اور جو ہم پر واجب ہے وہی اس پر بھی۔

شیخ رحمہ اللہ اس بات سے اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اسلام اور

(۱) شرح العقیدۃ الطحاویہ، ص ۳۵۵۔

(۲) صحیح بخاری مع فتح الباری، ۱/۲۹۶، کتاب الصلاۃ، بر واہیت انس رضی اللہ عنہ، اس میں الفاظ اس طرح ہیں ’لله ماللہ مسلم و علیہ ما علی المُسْلِم‘ یہ حدیث سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں بھی ہے، حدیث (۳۰۳)۔

(۱) الاجوبة المغفية على اسئلة العقيدة، ص ۲۰۔

(۲) شیخ رحمہ اللہ خوارج کی تردید کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو ہر گناہ پر تکفیر کے قائل ہیں، ورنہ بہت سے ائمہ نے مطلق طور پر یہ کہنے سے احتراز کیا ہے کہ ”ہم کسی گناہ کی بنا پر کسی کی تکفیر نہیں کرتے“، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ ”ہم ہر گناہ کے سبب لوگوں کی تکفیر نہیں کرتے“، جیسا کہ خوارج کا عقیدہ ہے۔

ساتھ ہمیشہ ہمیش کے لئے مستحق جہنم ہوگا جیسا کہ معتزلہ کا عقیدہ ہے (۱)، رہا وہ شخص جو کبیرہ گناہوں مثلاً زنا یا شراب نوشی یا سود خوری یا حرام نفس کے قتل ناجتن وغیرہ کا ارتکاب حلال سمجھتے ہوئے کرے تو وہ باجماع مسلمین کافر ہو جائے گا، چنانچہ جو کبیرہ گناہ کا ارتکاب اسے حلال سمجھتے ہوئے کرے گا اس سے توبہ کروائی جائے گی اگر توبہ کر لے تو ٹھیک ورنہ دین اسلام سے مرتد ہونے کے سبب اسے قتل کر دیا جائے گا۔

اُرکبھی انسان کے پاس ایمان اور اس کے فروع کا کچھ حصہ ہوتا ہے جس سے وہ مدح و شنا اور ثواب کا مستحق ہوتا ہے اور کفر و نفاق کا کچھ حصہ ہوتا ہے جس سے وہ مذمت اور عذاب کا مستحق ہوتا ہے، اور فقهاء کی گفتگو میں مرتد سے مراد وہ شخص ہے جس کے پاس ایمان کا اتنا بھی حصہ نہ ہو جس سے اس کا خون معاف کیا جاسکے۔

کفار دو قسم کے ہیں:
ایک وہ کفار جو سرے سے دین اسلام میں داخل ہی نہ ہوئے اور نہ ہی

(۱) شرح الحقیقتۃ الطحاویہ، ص ۳۶۰ تا ۳۶۱۔

ایمان ایک ہی شے ہے اور مسلمان گناہ کے ارتکاب کے سبب اس وقت تک اسلام سے خارج نہیں ہوگا جب تک کہ اسے حلال نہ سمجھے، اور آں موصوف کے ”ہمارے قبلہ والے“ کہنے سے مراد: وہ ہے جو اسلام کا دعویدار ہو، کعبہ کا استقبال کرے، گرچہ ہوا پرستوں اور گنہ گاروں میں سے ہو بشرطیکہ وہ رسول اللہ ﷺ کی لائی ہوئی کسی بات کو نہ جھٹلائے (۱)۔

اہل سنت اس بات پر متفق ہیں کہ کبیرہ گناہ کا مرتكب ایسا کافر نہیں کرتا ہے جس کے سبب وہ ملت اسلامیہ سے بالکلیہ خارج ہو جائے، کیونکہ اگر وہ ایسا کفر کرتا جس سے ملت سے خارج ہو جائے تو وہ مرتد فرار پاتا اور اسے بہر صورت قتل کر دیا جاتا، نہ ولی قصاص کی معافی قبول کی جاتی اور نہ ہی زنا، چوری اور شراب خوری وغیرہ کی حدیں ہی اس پر قائم کی جاتیں۔

اس بات کا بطلان اور خرابی دین اسلام میں بدیہی طور پر معلوم ہے۔

نیز اہل سنت اس بات پر بھی متفق ہیں کہ کبیرہ کا مرتكب ایمان و اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے، نہ کفر میں داخل ہوتا ہے اور نہ ہی کافروں کے

(۱) شرح العقیدۃ الطحاویہ، ص ۳۵۰، پوچھا ایڈیشن، جس کی تحقیق اہل علم کی ایک ٹم نے کی ہے۔

پہلا سبب: اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے ساتھ شرک:

۱- اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک: خواہ ربو بیت میں شرک ہو، یعنی یہ عقیدہ رکھ کہ با دشائیت یا تدبیر یا بعض مخلوقات کی تخلیق میں کوئی اللہ کا شریک ہے وغیرہ، یا الوہیت و عبادت میں شرک ہو، یعنی کسی بھی قسم کی کوئی عبادت غیر اللہ کے لئے انجام دے، جیسے غیر اللہ کو پکارے، یا اس کے لئے سجدہ کرے یا اس کے لئے ذبح کرے یا اس کی نذر مانے یا یہ عقیدہ رکھ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی عبادت کا مستحق ہے یا اپنے اور اللہ کے درمیان واسطے قائم کر کے ان کی قربت حاصل کرے تاکہ وہ اسے اللہ سے قریب کر دیں، جیسا کہ مشرکین کا عقیدہ تھا جن کے بارے میں اللہ نے اپنی کتاب میں خبر دی ہے، اور اس کی مثالیں بے شمار ہیں لیکن اصل اور مرجع یہی ہے۔

۲- رہا رسول اللہ ﷺ کے ساتھ شرک: تو اس میں سے یہ ہے کہ رسول اللہ پر اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک یہ عقیدہ نہ رکھے کہ آپ دین کے اصول و فروع اور تمام ابواب میں تمام جن و انس اور عرب وغیر

محمد ﷺ پر ایمان لانے کی طرف منسوب ہوئے، جیسے اُسی (ان پڑھ لوگ) 'مشرکین، اہل کتاب (یہود و نصاریٰ)، مجوسی (آتش پرست)' بت پرست' دہریہ اور فلاسفہ اور ان کے علاوہ دیگر کفار... ان تمام لوگوں کے کفر بذخیٰ، ان کے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے اور جنت کے حرام ہونے پر کتاب اللہ سنت رسول اور اجماع امت دلالت کنال ہیں، اس میں ان کے جاہل و عالم، ان پڑھ کتابی (جسے کتاب دیا گیا ہو)، اور عام و خاص وغیرہ میں کوئی فرق نہیں، یہ چیز دین اسلام میں بدیہی طور پر معلوم ہے، تو گفتگو کفار کی اس قسم کے بارے میں نہیں بلکہ اس دوسری قسم کے بارے میں ہے جو دین اسلام کی طرف منسوب اور محمد ﷺ پر ایمان لانے کے دعویدار ہیں، پھر اس دعوے کے بعد ان سے ایسی چیزیں سرزد ہوتی ہیں جو اس اصل کے منافی ہوتی ہیں، اور اس کے باوجود ان کا گمان ہوتا ہے کہ وہ دین اسلام پر قائم اور اس کے ماننے والے ہیں، تو ایسے لوگوں کی تکفیر کے کئی اسباب ہیں جو مجموعی طور پر اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب اور اس کے دین اور اس کے لوازم کے عدم التزام کی طرف لوٹتے ہیں، ان میں سے چند اسباب درج ذیل ہیں:

ہونے کا دعویٰ کیا یا وہ دعویٰ کیا جو مدد زنا دقد اہل وحدت و فلاسفہ کرتے ہیں کہ یہ عوام اور سادہ لوح لوگوں کی شریعت ہے، یا معاملات کا تخيّل اور اشارات ہیں اس میں حقیقت کی صراحت نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں قرآن کریم کا کفر اور اسی طرح دین اسلام سے خروج کا سبب ہیں۔

اسی طرح جس نے یہ گمان کیا کہ اسے رسول اللہ ﷺ کی لائی ہوئی عظیم شریعت اور صراط مستقیم سے نکلنے کا اختیار ہے، اور جس نے ان انبیاء میں سے جن پر اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول نے نص قاتم کی ہے کسی نبی یا کتاب و سنت میں ذکر کردہ اللہ کی کتابوں میں سے کسی کتاب کا انکار کیا وہ قرآن کریم کو جھٹلانے والا ہے، کیونکہ مونوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ مخلوق کی طرف اللہ کے بھیجے انبیاء و رسول پر نازل کردہ تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اس کے رسولوں یا کتابوں میں سے کسی میں کوئی تفہیق نہیں کرتے ہیں، اور جس نے بعث، جزا، جنت اور جہنم وغیرہ کا انکار کر دیا وہ کتاب و سنت کو جھٹلانے والا ہے، اور جس نے نماز کا یا زکاۃ یا روزہ یا حج کی فرضیت کا انکار کیا وہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول اور مسلمانوں کے اجماع کو جھٹلانے والا ہے اور باجماع

عرب تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور آپ آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، چنانچہ جس نے یہ عقیدہ رکھا کہ آپ جنوں نہیں صرف انسانوں کی طرف یا صرف عربوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں... یا اپنی رسالت کا دعویٰ کیا یا کسی مدعا رسالت کی تصدیق کی تو یہ اور اس جیسی تمام باتیں رسول اللہ کے ساتھ شرک، اللہ کا کفر، اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب اور دین اسلام سے خروج کا سبب ہیں (۱)۔

دوسرے سبب: کفر کے اسباب میں سے دوسرے سبب کتاب و سنت پر ایمان نہ لانا ہے:

بندہ اس وقت تک مومین نہیں ہو سکتا جب تک یہ عقیدہ نہ رکھ کر قرآن اللہ کا کلام ہے، مکمل حق اور حق ہے، اس کا التزام ضروری ہے، چنانچہ جس نے قرآن یا اس میں سے کسی حصہ کو خواہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، کا انکار کیا یا اس کی توہین کی یا اس کا مذاق اڑایا یا اس کے جھوٹ یا من گھڑت

(۱) ارشاد اولی الہصائر والالباب لعلیم الفتنہ باقرب الطرق واپرالاسباب، عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ علیہ، ص ۱۹۳ تا ۱۹۴، قدرے تصرف کے ساتھ۔

نے رسول اللہ ﷺ پر ایمان لانے، ہربات میں آپ کی صداقت کا عقیدہ رکھنے، آپ کی ہربات کو حق جان کر اس کا التزام کرنے کے باوجود کتاب و سنت کے فہم میں غلطی کی اور بعض خبری یا عملی مسائل میں راہ صواب سے انحراف کا شکار ہوئے، (تاویل اور جہالت کے سبب) ایسے لوگوں کے دین اسلام سے خارج نہ ہونے، ان پر کافروں جیسا حکم نہ لگانے ... پر کتاب و سنت دلالت کنناں ہیں۔

صریح نصوص سے ثابت شدہ امور کی مخالفت کرنے والے ان جیسے بدعتیوں کے بارے میں قول فصل یہ ہے کہ اس باب میں ان کی کئی قسمیں ہیں:

ان میں سے جو جانتا ہے کہ اس کی بدعت کتاب و سنت کے خلاف ہے، اس کے باوجود کتاب و سنت کو پس پشت ڈال کر اس کی پیروی کرتا ہے اور حق واضح ہو جانے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو ایسے شخص کی تفہیر میں کوئی شک نہیں۔

جو شخص شرعی دلائل اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے واجبی علم

مسلمین دین اسلام سے خارج ہے، اور جو شخص کتاب و سنت کے احکام میں سے کسی ظاہر و باہر اجماع قطعی سے ثابت حکم کا انکار کرے، مثلاً روٹی، گائے یا بکری وغیرہ کی حلت کا انکار کرے، یا زنا یا تمہت یا شراب نوشی کی حرمت کا انکار کرے چہ جائے کہ شرکیہ و کفریہ امور تو ایسا شخص کافر، کتاب اللہ سنت رسول کا جھٹلانے والا اور مونوں کی راہ کے علاوہ کا پیروکار ہے، اسی طرح جس نے اللہ کی دی ہوئی کسی صریح خبر یا رسول اللہ کی لائی ہوئی کسی خبر یعنی صحیح اور صحیح حدیث کا انکار کیا وہ اللہ اور اس کے رسول کا منکر (کافر) ہے، اسی طرح جوان میں سے کسی چیز میں اسے جانتے کے بعد جبکہ ابھی چیز سے کوئی علم نہیں ہوتا، شک کرے تو وہ کافر ہے، کیونکہ وہ اپنے اوپر واجبی ایمان کا تارک اور اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کا جھٹلانے والا ہے (۱)۔

ایک ضروری قید

وہ یہ ہے کہ اہل قبلہ میں تاویل کرنے والے جو گمراہ ہوئے اور جنہوں

(۱) ارشاد اولیٰ البصائر والآباب لنبی الفقہ باقرب الطرق واکیر الاسباب، ص ۱۹۲۔

اس میں قبولیت عذر کے لئے کسی تاویل یا شہمہ کی گنجائش نہیں ہے اور جن صفات میں تفصیلی گفتگو کی ہے اس میں بکثرت تاویلات موجود ہیں۔

اور جو چیزیں اس اصل میں داخل ہوتی ہیں ان میں فرشتوں اور جنوں کا انکار بھی ہے، کیونکہ فرشتوں پر ایمان لانا ایمان کے چھ اصولوں میں سے ایک ہے جس کا ذکر قرآن کریم کی بہت سی سورتوں میں ہوا ہے اور سنت رسول اس سے بھری پڑی ہے، چنانچہ جو اس پر ایمان نہ رکھے وہ کتاب و سنت پر ایمان نہیں لاسکتا، اسی طرح جنوں کا ذکر بھی قرآن کریم میں متعدد مقامات پر ہوا ہے اور ان کی ذمہ داریوں اور صفات کا بھی ذکر موجود ہے، لہذا ان کا انکار بھی کتاب و سنت کا انکار ہے، اسی طرح قرآن یا سنت یادِ دین کا مذاق اڑانا کفر اور اس سے بڑھ کر ہے، کیونکہ کفر عدم ایمان کا نام ہے خواہ اعراض کرے یا معارضہ اور یہ معارضہ کرنے والا ہے، اسی طرح جو دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کے پیروکار کو خواہ وہ کوئی بھی دین ہو، کافرنہ سمجھے یا ان کے کفر میں شک کرے تو یہ عقیدہ کتاب و سنت کے نصوص سے مکرانے کے سبب کفر ہے، اسی طرح جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر وہ تہمت لگائے

کی طلب سے اعراض کرتے ہوئے اور اپنی جہالت اور گمراہی کے باوجود یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ وہ حق پر ہے کتاب و سنت کو ٹھکرائے اور اپنی بدعت سے راضی اور خوش ہو، تو ایسا شخص اپنے اوپر اللہ کے واجب کردہ امر کے ترک اور اللہ کی حرام کردہ امر پر جرأۃ کے اعتبار سے ظالم اور فاسق ہے۔ اور ان میں کچھ اس سے کمتر ہیں، اور ان میں وہ بھی ہے جو اتباع حق کا متلاشی اور خواہاں ہے اور اس نے اس کی کوشش بھی کی ہے، لیکن اسے کوئی ایسا شخص میسر نہ آیا جو اسے حق کی وضاحت کر کے بتائے، چنانچہ وہ شخص اہل حق پر اپنے قول و فعل سے جرأۃ کرتے ہوئے نہیں بلکہ یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ درستی پر ہے اپنے منہج پر قائم و دائم رہا، تو ممکن ہے کہ ایسے شخص کی خطاب معاف کر دی جائے۔ واللہ اعلم۔

مقصود یہ ہے کہ اس جگہ اس بات کو ملاحظہ رکھنا ضروری ہے، کیونکہ کچھ تفصیلات پائی گئی ہیں جن سے متصف ہونے والے کی اہل علم نے تکفیر کی ہے، اور اسی جنس کا ایک دوسرا شخص بھی ہے جس کی تکفیر نہیں کی ہے، دونوں مسائل کے درمیان فرق یہ ہے کہ جن صفات کی بنیاد پر اسے کافر قرار دیا ہے

کہتے ہیں کہ اہل قبلہ میں سے فاسق سے اس کے فسق کے سبب مطلق ایمان کی نفی نہیں کی جائے گی اور نہ ہی اسے ایمان کامل سے متصف کیا جائے گا، نیز کہتے ہیں کہ: وہ اپنے ایمان کے سبب مومن اور ارتکاب کبیرہ کے سبب فاسق ہے، الہذا نہ اسے مطلق ایمان کا نام دیا جائے گا اور نہ اس سے ایمان کا اطلاق سلب کیا جائے گا۔ اور بہاں فسق سے مراد فسق اصغر (چھوٹا فسق) ہے یعنی کبیرہ گناہوں کا ارتکاب، جن کے مرتكب پر مومنوں کے احکام جاری کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے فسق، کفر اور ظلم کا نام دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹے کو فاسق کا نام دیا ہے، ارشاد باری ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بَنِيَّا فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصَبِّيُوا قَوْمًا بِجَهَنَّمَةَ فَتَصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِين﴾ (۱)۔

اے مومنو! اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو ایذا پہنچا دو پھر اپنے کئے پر

(۱) سورۃ الحجرات: ۲۔

جس سے اللہ نے انہیں بری قرار دیا ہے یا نبی کریم ﷺ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا انکار کرے، تو صریح کتاب اللہ کو جھٹلانے کے سبب وہ بھی معارض ہے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی دی ہوئی خبروں میں، اللہ یا اس کے رسول ﷺ کی تکذیب کی وہ کافر ہے، یا اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے حکم کی تابعداری نہ کرے (تو بھی) کیونکہ یہ ساری چیزوں قرآن و سنت پر ایمان کے منافی ہیں۔ فقهاء نے صحیح تکفیری امور کی جو تفصیلات ذکر کی ہیں وہ اسی بنیادی سبب کی طرف عائد ہیں، چنانچہ کفر اللہ اور اس کے رسول ﷺ کا حق ہے، الہذا کافروں ہی ہے جسے اللہ اور اس کے رسول کافر قرار دیں، اور وہ رسول اللہ ﷺ کی لائی ہوئی تمام یا بعض چیزوں کا انکار کرنا ہے، واللہ تعالیٰ اعلم (۱)۔

تکفیر کے مسئلہ میں اہل سنت و جماعت کے موقف کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ

(۱) ارشاد اولی البصائر والالباب لغایل الفقہ باقرب الطرق وايسر الاسباب، ص ۱۹۳ تا ۱۹۸، قدر تصرف کے ساتھ۔

پشیمانی اٹھاؤ۔

اس کے باوجود انسان کو دین اسلام سے بالکل یہ خارج نہیں کیا ہے اور نہ اس سے ایمان مطلق کی نفع فرمائی ہے، نبی رحمت ﷺ کا ارشاد ہے:

”سِبَابُ الْمُسْلِمِ فَسُوقٌ وَقَتَالٌ كَفَرٌ“ (۱)۔

مسلمان کو برا بھلا کہنا فسق اور اس سے قتال کرنا کفر ہے۔

اور نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں بہت سے صحابہؓ کرام نے آپس میں بری بھلی باتیں کیں، لیکن آپ ﷺ نے انہیں نصیحت کی اور اصلاح فرمائی، ان کی تکفیر نہ کی بلکہ وہ آپ کے دینی مددگار اور وزراء کی حیثیت سے باقی رہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَإِن طَائِفَةً مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ افْتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأَخْرَى فَقَاتَلُوا الَّتِي تَبَغَّى حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ﴾ (۲)۔

(۱) صحیح بخاری مع فتح الباری، ۱/۱۰، و صحیح مسلم، ۱/۸۱۔

(۲) سورۃ الحجرات: ۹۔

اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں میل ملا پ کر ادا کرو پھر اگر ان دونوں میں سے ایک جماعت دوسری جماعت پر زیادتی کرے تو تم (سب) اس گروہ سے جوزیادتی کرتا ہے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔

چنانچہ اللہ نے دونوں گروہوں کو مومن قرر دیا اور ان کے درمیان اصلاح کا حکم دیا ہے، اگرچہ باغی (ظالم) گروہ سے قتال کر کے ہی سہی، اور فرمایا:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لِعْلَكُمْ تُرَحَّمُونَ﴾ (۱)۔

(یاد کھو) سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں پس اپنے دو بھائیوں میں ملاپ کر ادا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر حم کیا جائے۔ اور ان سے ایمانی اخوت کی نفع نہیں کی نہ ہی قتال کرنے والوں کے درمیان اور نہ ان کے اور بقیہ مومنوں کے درمیان بلکہ ان کے درمیان ایمانی اخوت کو بدستور قائم و دائم رکھا۔

(۱) سورۃ الحجرات: ۱۰۔

بعض“ (۱)۔

تم میرے بعد کافرنہ ہو جانا کہ تم میں کا بعض بعض کی گردن مارے۔
انہیں بھی پلٹنے اور پھر جانے کے بعد مسلمان کہا، اسی طرح خوارج کی
صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا:

”تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى
الطائفتين بالحق“ (۲)۔

مسلمانوں کے اختلاف کے وقت ایک جماعت نکل جائے گی جسے
دونوں گروہوں میں سے حق سے قریب تر جماعت قتل کرے گی۔
اور یہ بات معلوم ہے کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور اہل شام انہی
دونوں جماعتوں کے درمیان سے خوارج نکلے تھے، ان دونوں کے درمیان
بر اعظم معمر کہ ہوا تھا، (پھر بھی) انہیں مسلمان قرار دیا۔ نیز آپ نے اپنے
نواسہ حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا:

(۱) صحیح بخاری مختصر فتح الباری، ۱۳/۲۶۔

(۲) صحیح مسلم، ۲/۲۵۷، نیز دیکھئے: صحیح البامع الصغیر، ۳/۵۸۔

اسی طرح آیت قصاص میں مومنوں میں سے قاتل و مقتول دونوں کے
لئے ایمان ثابت اور باقی رکھا، ارشاد باری ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَتَبْ عَلَيْكُمُ الْقَصَاصَ فِي الْقَتْلِيَةِ
الْحَرُّ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثِي بِالْأَنْثِي فَمَنْ عَفَى لَهُ
مِنْ أَخِيهِ شَيْءٍ فَاتَّبَعَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءَ إِلَيْهِ
بِإِحْسَانٍ﴾ (۱)۔

اے ایمان والو! تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہے، آزاد
آزاد کے بد لئے غلام غلام کے بد لئے عورت عورت کے بد لئے،
ہاں جس کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی
جائے اسے بھلائی کی اتباع کرنی چاہئے اور آسانی کے ساتھ دیت
او کرنی چاہئے۔

اسی طرح وہ لوگ جن سے آپ ﷺ نے فرمایا:

”لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كَفَارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ

(۱) سورۃ البقرہ: ۱۷۸۔

(الف) اکبر (بڑا): جو کہ انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے کیونکہ وہ دین کی بنیادوں کے خلاف ہے۔

(ب) اصغر (چھوٹا): جو کہ ایمان میں فقص پیدا کرتا ہے اور اس کے کمال کے منافی ہے، اپنے مرتكب کو اسلام سے خارج نہیں کرتا۔
چنانچہ کفر سے کم تر کفر، شرک سے کم تر شرک، ظلم سے کم ظلم، فسق سے کم تر فسق اور نفاق سے کم تر نفاق (ہوتا ہے)۔

اور وہ فاسق جو ایسے گناہوں کا مرتكب ہو جو کفر کو مستلزم نہیں ہیں جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہے گا، بلکہ اس کا مسئلہ اللہ کے سپرد ہے، اگر وہ چاہے تو اپنے فضل و کرم سے اسے معاف کر کے پہلے وہله ہی میں جنت میں داخل کر دے اور اگر چاہے تو اس کے گناہوں کے بقدر جن کا ارتکاب کرتے ہوئے اس کی موت واقع ہوئی ہے اسے عذاب دے، اور اسے جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ نہ رکھے بلکہ اگر اس کی موت ایمان کی حالت میں ہوئی ہے تو اپنی رحمت اور پھر سفارشیوں کی سفارش کے سبب اسے جہنم سے نکال دے (۱)۔

(۱) معارف القبول شرح سلم الوصول الی علم اصول التوحید، ۲/ ۳۳۳۔

”إن أبني هذا سيد وسيصلاح الله تعالى به بين فئتين عظيمتين من المسلمين“ (۱)۔

میرا یہ بیٹا سردار ہے، عنقریب اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ مسلمانوں کے عظیم گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعہ ان کے والد (علی رضی اللہ عنہ) کی وفات کے بعد جماعت کے سال دو گروہوں کے درمیان اصلاح فرمائی تھی، وللہ الحمد والمنہ۔

عمل کو فسق یا اس کے مرتكب کو فاسق کا نام دینے اور اسے مسلمان کا نام دیکر اس پر مسلمانوں کے احکام جاری کئے جانے میں کوئی تعارض نہیں ہے، کیونکہ ہر فسق کفر نہیں ہوتا اور نہ کفر، ظلم وغیرہ کے نام سے موسم کیا جانے والا عمل دین اسلام سے خارج کرنے والا ہی ہوتا ہے یہاں تک کہ اس کے لازم و ملزم میں غور کر لیا جائے، یہ اس لئے کہ کفر، شرک، ظلم، فسق اور نفاق وغیرہ الفاظ شرعی نصوص میں دو طرح وارد ہوئے ہیں:

(۱) صحیح بخاری، ۳/ ۷۰۔

کہے یا کوئی ایسا عمل کرے جو ارتاد کو مستلزم ہو، کیونکہ اللہ نے ہمیں دنیا میں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم لوگوں کے ظاہری حالات پر حکم لگائیں اور باطن کو آخرت میں اللہ کے فیصلہ کے لئے چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ نے ظاہر کو نظر انداز کرنے والے پر نکیر کرتے ہوئے فرمایا:

﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلِيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتُ مُؤْمِنًا﴾ (۱)۔

اور جو تم سلام علیک کرے تم اسے یہ نہ کہہ دو کہ تو ایمان والانہیں۔ اسی طرح اللہ عزوجل نے محض زبان سے کہنے کو مغفرت کا سبب قرار دیا ہے، ارشاد ہے:

﴿فَأَثَابُهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ﴾ (۲)۔

اس لئے ان کو اللہ تعالیٰ ان کے اس قول کی وجہ سے ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، یہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے

(۱) سورۃ النساء: ۹۳۔

(۲) سورۃ المائدہ: ۸۵۔

اہل سنت و جماعت کا اس بات پر اجماع ہے کہ گناہ خواہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ اگر وہ شرک سے مکر ہوں تو محض ان کے سبب مسلمان پر کفر کا حکم صادر نہیں ہو سکتا، بلکہ کفر کا حکم اس معصیت کے حلال سمجھنے کے سبب ہو گا جس کا معصیت ہونا متفق علیہ ہے، جیسے اللہ کی حرام کردہ شے کو حلال یا حلال کردہ شے کو حرام سمجھنا، اس مسئلہ میں اہل علم میں سے کسی دو کا اختلاف نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ عزوجل کا ارشاد ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء﴾ (۱)۔

یقیناً اللہ تعالیٰ اس چیز کو نہیں معاف کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ گناہ جس کے لئے چاہے بخش دیتا ہے۔ رہا گناہ پر اصرار کرنا، تو کافر شخص شہادتین کے اقرار سے اسلام میں داخل ہوتا ہے اور اس اعلان کے بعد اس پر مسلمانوں کے سے احکام جاری ہوتے ہیں، اگرچہ وہ اسلام ظاہر کرے اور کفر چھپائے رکھے، الایہ کہ کوئی ایسی بات

(۱) سورۃ النساء: ۱۴۶ اور ۱۴۷۔

اور نیک لوگوں کا بھی بدلتے ہے۔

لیکن اگر اس مسلمان سے کچھ ایسے اقوال یا افعال صادر ہوں جو اسلام کی حد بندی کی اعتبار سے کفر شمار ہوتے ہوں، تو ضروری ہے کہ ہم اس شخص کے تین اپنا (صحیح) موقف معین کریں، یہ مسئلہ حاکم و مکوم کے اعتبار سے مختلف ہے:

(الف) اللہ کے نافرمانوں اور گنہ گاروں کے تین حاکم کا موقف:
مسلمان حاکم شرعی طور پر اس بات کا مکلف ہے کہ وہ احسن طریقہ سے بحث و مباحثہ کے ذریعہ ایسے لوگوں پر حجت قائم کرے اور پھر ان پر اللہ اور اس کے رسول ﷺ کا شرعی حکم نافذ کرے۔

۱۔ اگر وہ دعویٰ کریں کہ وہ مؤمن ہیں لیکن ایمان سے ان پر نماز یا حج یا زکاۃ یا روزہ لازم نہیں ہوتا، کیونکہ یہ چیزیں اسلام کے فرائض وارکان میں سے نہیں ہیں، یا نماز پڑھیں اور زنا یا سود یا شراب یا کفر و شرک اور اللہ کے حکم کو ٹھکرانے کی پرچار کر جماعت اور گروہ سے ملنے کو حلال سمجھیں، اور ان تمام چیزوں میں وہ دلیل و برہان پر ہوں، تو ضروری ہے کہ حاکم وقت ان سے

شرعی توبہ طلب کرنے کے بعد ان پر شرعی حد قائم کرے، کیونکہ یہ لوگ ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف پلٹ گئے ہیں۔

(۲) اور اگر وہ ان عبادات کی فرضیت کا اقرار کریں لیکن یہ کہیں کہ انہیں ان تمام عبادات کی پابندی کی طاقت نہیں ہے اور اطاعت کا وعدہ کریں، تو ایسے لوگ کفر و ارتداد کے حکم سے محفوظ ہیں، اور حاکم کو چاہئے کہ ایسے عملی وسائل کا انتظام کرے جو اس ظاہرہ کے انسداد کے ضمن اور کفیل ہوں۔

(۳) لیکن اگر وہ بدستور اپنی حالت پر مصروف ہیں، فرائض اور دین کے جملہ امور کا اقرار کریں، اور ان پر عمل نہ کریں یا اس کے خلاف عمل کریں تو حاکم پر ان کے خلاف قاتل کرنا واجب ہے۔

چنانچہ صحیح بخاری و مسلم میں ہے کہ جب رسول امین ﷺ اپنے رب کی طرف منتقل ہوئے تو کچھ لوگ زکاۃ کی ادائیگی کے منکر ہو گئے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے قاتل کیا اور ان سے قاتل کئے جانے کی حیثیت سے انہیں مرتدین کی صفت میں شامل کر دیا، یہاں تک کہ وہ توبہ کر لیں، اور عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے قاتل پر نکیر کرتے ہوئے فرمایا: آپ ان سے کیسے قاتل

کریں گے جب کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے:

”أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنني رسول الله فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها“۔

مجھے لوگوں سے قاتل کا حکم دیا گیا ہے یہاں تک کہ وہ اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، جب وہ ایسا کریں تو انہوں نے مجھ سے اپنی جان و مال کو محفوظ کر لیا سوائے اس کے حق کے۔

ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کیا آپ ﷺ نے نہیں فرمایا ہے کہ ”سوائے اس کے حق کے؟“، اللہ کی قسم! اگر وہ ایک رسی بھی جسے رسول اللہ ﷺ کو دیا کرتے تھے مجھے نہ دیں گے تو میں اس پر ان سے قاتل کروں گا، عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”اللہ کی قسم! جب میں نے دیکھا کہ اللہ نے جنگ کے لئے ابو بکر کا سینہ کھول دیا ہے تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہی حق ہے“ (۱)۔

(۱) صحیح بخاری مع فتح الباری، ۲۶۲/۳، حدیث (۱۳۹۹، ۱۴۰۰) صحیح مسلم، ۱/۱۷، حدیث (۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳)۔

(ب) مخلوقین (عوام) کا موقف:

رہا گمراہوں اور جاہلوں کے تین عوام کا موقف تو مسلمان کے سامنے حکمت، اچھی نصیحت کے ذریعہ دعوت اور جنت قائم کر کے ان گنہ گاروں اور گمراہوں سے مجادلہ (بحث و مباحثہ) کے سوا کچھ نہیں، یہاں تک کہ وہ اپنی حقیقت سے آگاہ ہو جائیں اور اس اسلام کی صالحیت کو تسلیم کر لیں جس کی پیروی کا انہوں نے اعلان کیا ہے، یا گمراہی پر ان کا اصرار اور اسلام کی عدم صالحیت کا دعویٰ واضح ہو جائے، تاکہ ان پر بآسانی اسلام سے مرتد ہونے کا حکم لگایا جاسکے، کیونکہ ایسی حالت میں مسلمان کو اس کا اختیار نہیں کرو گوں پر با جملہ کفر کا حکم لگائے، بلکہ ہر فرد پر اسی اعتبار سے حکم صادر ہو گا جس اعتبار سے اس کا کردار گویا اور اس کے احوال، اقوال اور افعال کی روشنی میں اس کا معاملہ واضح ہو گا، کیونکہ اسلام نے لوگوں کے دلوں کے اسرار کو کریدنے کا حکم نہیں دیا ہے اور نہ ہی کسی کو اللہ کی جنت سے کسی کو محروم کرنے یا اسے ہٹانے دھتکار نے اور محروم کرنے کے وسیلے کے طور پر اس پر کفر کا حکم لگانے کا تصرف و اختیار ہے... چنانچہ ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مردی ہے وہ

بیان کرتے ہیں:

خالد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیا میں اس کی
گردن نہ مار دوں! آپ ﷺ نے فرمایا: نہیں شاید وہ نماز پڑھتا
ہو، خالد رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کتنے نمازی اپنی زبان سے ایسی بات
کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہوتی! تو آپ نے فرمایا: مجھے
لوگوں کے دلوں کو کریڈنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے اور نہ ہی ان کے شکم
چاک کرنے کا (۱)۔

یہ شخص جس نے تقسیم کے بارے میں نبی کریم ﷺ کے فیصلہ پر اعتراض
کیا تھا رسول اللہ ﷺ مغض اس اندیشہ کی بنیاد پر کہ ”شاید وہ نماز پڑھتا ہو“
اس پر ارتدا کی حد قائم کرنے (یعنی قتل کرنے) پر راضی نہ ہوئے، اور اس
لئے بھی کہ نماز اس کے ایمان کی شہادت دیتی ہے، اور جب خالد رضی اللہ عنہ
نے فرمایا کہ ”کتنے نمازی اپنی زبان سے ایسی بات کہتے ہیں جو ان کے دل
میں نہیں ہوتی؟“ تو نبی کریم ﷺ نے ایک سنہرے قاعدہ ”یعنی ظاہر پر حکم
گانا“ کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی، کیونکہ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں

(۱) صحیح مسلم، کتاب الزکاة، ۲/۳۲، حدیث (۱۰۶۳)۔

”بعث علي رضي الله عنه وهو باليمين بذهيبة إلى النبي
عليه السلام فقسمها بين أربعة فقال رجل: اتق الله، فقال عليه السلام:
”ولك ألسنت أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟“ ثم
ولي الرجل، فقال خالد رضي الله عنه: يا رسول الله ألا
أضرب عنقه؟ فقال: ”لا لعله أن يكون يصلي“ فقال خالد:
وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه! فقال عليه السلام:
”إنني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أن أشق
بطونهم“۔

علی رضی اللہ عنہ نے - دراں حالیکہ وہ بیکن میں تھے - کچھ سونا نبی
کریم ﷺ کی خدمت میں بھیجا، آپ نے اسے چار لوگوں میں
تقسیم فرمایا، ایک شخص نے کہا: ”اللہ سے ڈریے!“ تو آپ ﷺ
نے فرمایا: تیری بربادی ہو، کیا میں روئے زمین پر لوگوں میں سب
سے زیادہ اللہ سے ڈرنے کا حق دار نہیں ہوں؟ پھر وہ واپس ہو گیا،

يأيّكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنَصِّرُونَ ﴿١﴾۔

آپ کہہ دیجئے! کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنے نفسوں پر
ظلّم کیا ہے اللہ کی رحمت سے مالیوس نہ ہو، پیشک وہ بخشنے والا مہربان
ہے، اور اپنے رب کی طرف رجوع ہو جاؤ اور اس کے تابع فرمان
بن جاؤ قبل اس کے کہ تم پر عذاب آئے پھر تمہاری مدد نہیں کی
جائے گی۔

(۲) ارشاد باری ہے:

﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أُو يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ يَجِدُ
اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ (۲)۔

اور جو برا عامل کرے یا اپنی ذات پر ظلم کرے پھر اللہ سے استغفار
کرے تو وہ اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔

(۳) ارشاد باری تعالیٰ ہے:

(۱) سورۃ الزمر: ۵۲، ۵۳۔

(۲) سورۃ النساء: ۱۱۰۔

پوشیدہ امور کی حقیقت کو جانے کے لئے ان کے پیٹ چاک کرنے کا حکم نہیں
دیا ہے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ ہی پوشیدہ امور اور دل کے سر بستہ رازوں کو
جانانتا ہے (۱) اور جب تک وہ ظاہر نہ ہو جائے اسلام کے منافی نہیں۔
دوسرा مبحث: اہل سنت کے موقف کی دلیل۔

کسی گناہ کے سبب جب تک کہ وہ اسے حلال نہ سمجھے اہل قبلہ میں سے
کسی کو کافرنہ کہنے کے بارے میں اہل سنت و جماعت نے اپنے عقیدہ
و موقف پر کتاب و سنت اور اجماع امت کو مستند بنایا ہے:

اولاً: کتاب اللہ:

اس سلسلہ میں بہت سی آیات ہیں، چند آیات حسب ذیل ہیں:

(۱) اللہ سچانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿قُلْ يَا عَبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ
رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ
الرَّحِيمُ، وَأَنْبَيْوَا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلَمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ

(۱) دیکھئے: صحیح مسلم بشرح نبوی، ۷/۱۹۱، والحمد و تقدير تفسير مسلم، ج ۱۸۶۔

﴿وَإِنْ رَبُّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنْ رَبُّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (۱)۔

اور بیشک تمہارا رب لوگوں کو ان کے ظلم کے باوجود بخششے والا ہے اور تمہارا رب بڑے سخت عذاب والا ہے۔

(۲) ارشادِ بانی ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ (۲)۔

یقیناً اللہ تعالیٰ اس چیز کو نہیں معاف کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ گناہ جس کے لئے چاہے بخشش دیتا ہے۔

(۳) اللہ عزوجل کا ارشاد ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَتَبْ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِيَ الْحَرْ بِالْحَرْ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأَنْثَى فَمَنْ عَفَ فِي لَهُ مِنْ

(۱) سورۃ الرعد: ۶۔

(۲) سورۃ النساء: ۳۸، ۱۴۴۔

﴿أَخْيَهُ شَيْءٌ فَاتِّبَاعُ الْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ (۱)۔
اے ایمان والو! تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کی گیا ہے، آزاد آزاد کے بد لے غلام غلام کے بد لے عورت عورت کے بد لے، ہاں جس کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے اسے بھلائی کی اتباع کرنی چاہئے اور آسانی کے ساتھ دیت ادا کر دینی چاہئے۔

چنانچہ اللہ نے قاتل کو مونوں کے زمرہ سے خارج نہیں کیا بلکہ اسے ولی قصاص کا بھائی قردویا۔

(۲) اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَإِنْ طَائفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افْتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتَلُوا الَّتِي تَبَغِي حَتَّى تُفْيِي إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ

(۱) سورۃ البقرہ: ۱۷۸۔

إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم
ترحمنون ﴿١﴾

اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں میل ملاپ
کرادیا کرو پھر اگر ان دونوں میں سے ایک جماعت دوسرا
جماعت پر زیادتی کرے تو تم (سب) اس گروہ سے جوزیادتی کرتا
ہے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، اگر لوٹ
آئے تو پھر انصاف کے ساتھ صلح کرادو اور عدل کرو، بیشک اللہ تعالیٰ
النصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے (یاد رکھو) سارے مسلمان
بھائی بھائی ہیں اپنے دو بھائیوں میں ملاپ کرادیا کرو، اور اللہ
سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر حرم کیا جائے۔

چنانچہ اللہ نے دونوں گروہوں کو مومن قرار دیا اور ان کے درمیان
اصلاح کا حکم دیا ہے، اگرچہ باغی (ظالم) گروہ سے قتال کر کے ہی سہی، اور
ان سے مطلق طور پر ایمانی اخوت کی نفی نہیں کی، نہ ہی قتال کرنے والوں کے

(۱) سورۃ الحجرات: ۹، ۱۰۔

درمیان اور نہ ان کے اور بقیہ موننوں کے درمیان، بلکہ ان کے درمیان ایمانی
اخوت کو بدستور مطلق طور پر قائم و دائم رکھا (۱)۔

ثانیاً: سنت مطہرہ:

اس سلسلہ میں بہت ساری احادیث وارد ہیں، چند احادیث حسب ذیل
ہیں:

(۱) فرمان رسول ﷺ:

”من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة ومن مات
يشرك بالله شيئاً دخل النار“ (۲)۔

جو اس حال میں مرا کہ اللہ کے ساتھ کچھ بھی شریک نہیں کرتا تھا وہ
جنت میں داخل ہو گا اور جو اس حال میں مرا کہ اللہ کے ساتھ کچھ بھی
شریک کرتا تھا وہ جہنم میں داخل ہو گا۔

(۲) جریل علیہ الصلاۃ والسلام کا رسول اللہ ﷺ سے فرمانا کہ:

(۱) معارج القبول بشرح سلم الوصول الی اصول علم التوحید، ۲/ ۳۱۸۔

(۲) صحیح مسلم، ۱/ ۹۲۔

(۳) نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”تعالوا بایعونی علی ألا تشرکوا بالله شيئاً، ولا تسرقوها، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا بهتاناً تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله، فأمره إلى الله: إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه“ (۱)۔

آدم حسے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کچھ بھی شریک نہ کرو گے، نہ چوری کرو گے، نہ زنا کرو گے، نہ اپنی اولاد کو قتل کرو گے، نہ اپنے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان تراشیدہ کوئی بہتان باندھو گے اور نہ بھلانی میں میری نافرمانی کرو گے، تم میں سے جس نے یہ عہد و پیمان پورا کیا اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے اور جوان میں

(۱) صحیح بخاری من فتح الباری، ۲۹/۷۔

”بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة، قلت: يا جبريل ، وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم، قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم، قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم، وإن شرب الخمر“ (۱)۔

اپنی امت کو بشارت دید تھے کہ جو اس حال میں مرا کہ اللہ کے ساتھ کچھ بھی شریک نہیں کیا تھا وہ جنت میں داخل ہو گا، میں (رسول اللہ) نے عرض کیا: اے جبریل! اگر چہ اس نے چوری اور زنا کا ارتکاب کیا ہو؟ انہوں نے کہا: ہاں! میں نے عرض کیا: اگر چہ اس نے چوری اور زنا کا ارتکاب کیا ہو؟ انہوں نے کہا: ہاں! میں نے پھر عرض کیا: اگر چہ اس نے چوری اور زنا کا ارتکاب کیا ہو؟ انہوں نے کہا: ہاں! اگر چہ شراب پی ہو۔

حدیث مذکور میں اعمال کا ارتکاب فشق اور ظلم ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کے مرتكب کے ایمان کی شہادت دی ہے (۲)۔

(۱) صحیح بخاری من فتح الباری، ۱۱/۲۶۰۔

(۲) الحکم وقضیة تکفیر المسلمين، ص ۹۱۔

جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا: جن کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہو اسے جہنم سے نکال دو، چنانچہ انہیں نکلا جائے دراں حالیکہ وہ (جل کر) سیاہ ہو چکے ہوں گے، پھر انہیں نہر حیا یا نہر حیات (راویٰ حدیث مالک نے شک کیا ہے) میں ڈالا جائے گا، تو وہ ایسے آگیں گے جیسے سیلا ب کے کنارے دانہ اگتا ہے، کیا تم انہیں دیکھتے ہو کہ لپٹا ہوا زرد رنگ میں نکلتا ہے۔

(۵) بنی کریم ﷺ نے فرمایا:

”تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق“ (۱)۔

مسلمانوں کے اختلاف کے وقت ایک جماعت نکل جائے گی جسے دونوں گروہوں میں سے حق سے قریب تر جماعت قتل کرے گی۔ اور یہ بات معلوم ہے کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور اہل شام، انہی

(۱) صحیح مسلم، ۲/۲۸۵۔

سے کسی گناہ میں ملوث ہو گیا اور دنیا میں اسے اس کی سزا دیدی گئی تو وہ اس کے لئے کفارہ ہو گی، اور جو اس میں سے کسی چیز کا مرتكب ہوا اور اللہ نے اس کی پرده پوشی کی تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اگر چاہے تو سزا دے اور چاہے تو اسے معاف کر دے۔ راویٰ کہتے ہیں: ہم نے ان تمام باتوں پر آپ کے ہاتھوں پر بیعت کی، اسے امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔

(۲) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”يَدْ خُلُ أَهْلَ الْجَنَّةِ وَأَهْلَ النَّارِ النَّارِ، ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: أَخْرُجُوا مِنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مَثْقَالَ حَبَّةِ مِنْ خَرْدَلِ مِنْ إِيمَانٍ، فَيَخْرُجُونَ مِنْهَا قَدْ اسْوَدُوا فَيَلْقَوْنَ فِي نَهْرِ الْحَيَاةِ - شَكْ مَالِكَ - فَيَنْبَتُونَ كَمَا تَنْبَتُ الْحَبَّةُ فِي جَانِبِ السَّيْلِ أَلْمَ تَرَ أَنَّهَا تَخْرُجُ صَفَرَاءَ مُلْتَوِيَّةً“ (۱)۔

(۱) صحیح بخاری مع فتح الباری، ۱/۲۷۔

ثالثاً: اجماع:

اہل سنت و جماعت کا اس بات پر اجماع ہے کہ گناہ خواہ وہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ اگر وہ شرک سے مکر ہوں تو محض ان کے سب مسلمان پر کفر کا حکم صادر نہیں ہو سکتا، بلکہ کفر کا حکم اس معصیت کے حلال سمجھنے کے سبب ہو گا جس کا معصیت ہونا تتفق علیہ ہے، جیسے اللہ کی حرام کردہ شے کو حلال یا حلال کردہ شے کو حرام سمجھنا، اس مسئلہ میں اہل علم میں سے کسی دو کا اختلاف نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ عزوجل کا ارشاد ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء﴾ (۱)۔

یقیناً اللہ تعالیٰ اس چیز کو نہیں معاف کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ گناہ جس کے لئے چاہے بخشن دیتا ہے۔
واللہ المستعان (۲)۔

(۱) سورۃ النساء: ۱۱۶، ۳۸۔

(۲) دیکھئے: الحکم و قضیۃ تکفیر المُسْلِم، ص ۱۸۶۔

دونوں جماعتوں کے درمیان سے خوارج نکلے تھے، ان دونوں کے درمیان بڑا عظیم معرکہ ہوا تھا، (پھر بھی) انہیں مسلمان قرار دیا گیا۔

(۲) آپ ﷺ نے اپنے نواسہ حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا:

”إِنَّ أَبْنَى هَذَا سَيِّد وَسَيِّدِ الْمُصْلِحَاتِ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ بَيْنَ فَئَتَيْنِ عَظِيمَتِيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ“ (۱)۔

میرا یہ بیٹا سردار ہے، عنقریب اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعہ ان کے والد (علی رضی اللہ عنہ) کی وفات کے بعد جماعت کے سال دو گروہوں کے درمیان اصلاح فرمائی تھی، وللہ الحمد والمنہ (۲)۔

(۱) صحیح بخاری: ۳/۲۷۰۔

(۲) معارج القبول شرح سلم الوصول الی علم الاصول فی التوحید، ۲/۳۲۳۔

اور اس سے بڑا طالم کون ہوگا؟ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا جب حق اس کے پاس آجائے تو وہ اسے جھٹلادئے کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہ ہوگا۔

دوم: تصدیق کے ساتھ تکبر و انکار کا کفر:
فرمان باری ہے:

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمُلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسُ أَبْيَ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ (۱)۔

اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔

سوم: شک کا کفر، یہ سوچ و گمان کا کفر ہے:
اللہ عز و جل کا ارشاد ہے:

﴿وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظَنَّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ

(۱) سورۃ البقرۃ: ۳۲۔

دوسری فصل: کفر کے اقسام اور خطرناک تکفیری امور
پہلا مبحث: کفر کے اقسام۔

کفر کی دو قسمیں ہیں:
پہلا مطلب: وہ کفر (اکبر) جو ملت اسلامیہ سے خارج کر دیتا ہے۔

اس کی پانچ قسمیں ہیں: (۱)
اول: کفر تکذیب (جھٹلانے کا کفر):
اللہ عز و جل کا ارشاد ہے:

﴿وَمِنْ أَظَلَمُ مَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِالْحَقِّ لِمَا جَاءَهُ أَلِيَّسْ فِي جَهَنَّمَ مَثُوًّي لِلْكَافِرِينَ﴾ (۲)۔

(۱) کفر کی تعریف اس کتاب کے ص (۸۹) میں ملاحظہ کریں۔

(۲) سورۃ الحجۃ: ۲۸۔

أَبْدًا، وَمَا أَظْنَ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رَدَدْتَ إِلَى رَبِّي لَأُجَدِّنَ
خَيْرًا مِنْهَا مَنْقَلِبًا، قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يَحَاوِرُهُ أَكْفَرُتُ
بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تَرَابٍ ثُمَّ مِنْ نَطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رِجْلَاهُ،
لَكُنْ هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا (۱)۔

أَوْ رَوْهُ اپنے باغ میں داخل ہوا، حالانکہ وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والا
تھا، کہنے لگا میں نہیں خیال کر سکتا کہ یہ کسی وقت بھی بر باد ہو جائے۔
اور نہ میں قیامت کو قائم ہونے والی خیال کرتا ہوں اور اگر
(بالفرض) میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو یقیناً میں دہاں پہنچ
کر اس سے بھی زیادہ بہتر پاؤں گا۔ اس کے ساتھی نے اس سے
باتیں کرتے ہوئے کہا کہ کیا تو اس معبد سے کفر کرتا ہے جس نے
تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر منی کے قطرے سے پھر تجھے پورا آدمی
بنادیا۔ لیکن میں تو عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہی اللہ میرا پروردگار ہے، میں
اپنے رب کے ساتھ کسی کوشش کیک نہ کروں گا۔

چہارم: اعراض و پہلو تھی کا کفر:
اللَّهُ أَعْزُزُ وَجْلَ كَارِشَادَهُ: (۱)
﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا عِمَّا أَنْذَرُوا مَعْرُضُونَ﴾ (۲)
اور کافر لوگ جس چیز سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے اس سے اعراض
کرتے ہیں۔
پنجم: نفاق کا کفر:
اللَّهُ أَعْزُزُ وَجْلَ كَارِشَادَهُ:
﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطَبَعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ
لَا يَفْقَهُونَ﴾ (۲)۔
یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ ایمان لا کر پھر کافر ہو گئے ہندوؤں کے دلوں
پر مہر لگا دی گئی، تو وہ سمجھتے نہیں۔

(۱) سورۃ الاحقاف: ۳۔

(۲) سورۃ المنافقون: ۳۔

”سباب المسلم فسوق وقاتلہ کفر“ (۱)۔
مسلمان کو برا بھلا کہنا فشق اور اس سے قتال کرنا کفر ہے۔
نیز یہ فرمان ہے:

”إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ يَا كَافِرْ فَقَدْ بَاءَ بِهَا
أَحَدُهُمَا“ (۲)۔

جب آدمی اپنے (دینی) بھائی سے کہہ دے ”اے کافر“ تو ان دونوں میں کوئی ایک ضرور اس کا مستحق ہوتا ہے۔
نیز یہ فرمان بھی ہے:

”مِنْ أُتْيَ حَانِصًاً أَوْ امْرَأَةً فِي دُبْرِهَا ... فَقَدْ كَفَرَ بِمَا
أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ“ (۳)۔

جس نے حائضہ عورت سے یا عورت کی سرین میں مباشرت کی...

(۱) صحیح بخاری مجمع فتح الباری، ۱/۴۰، ۴۲۷/۱ و صحیح مسلم، ۱/۸۱۔

(۲) صحیح بخاری مجمع فتح الباری، ۱/۱۵، ۵۱/۱ و صحیح مسلم، ۱/۷۹۔

(۳) منداد محمد، ۲/۳۰۸، علامہ البانی نے اسے آداب الزفاف میں صحیح قرار دیا ہے، ص ۳۱۔

دوسرامطلب: وہ کفر جو ملت اسلامیہ سے خارج نہیں کرتا۔
یہ کفر ان نعمت ہے اللہ عزوجل کا ارشاد ہے:

﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرِيْبَةً كَانَتْ آمَنَةً مَطْمَئِنَةً يَأْتِيَهَا
رِزْقُهَا رَغْدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنَّمَعَ اللَّهَ فَأَذَاقَهَا
اللَّهُ لِبَاسَ الْجَوْعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ (۱)۔

الله تعالیٰ اس بستی کی مثال پیش فرماتا ہے جو پورے امن واطمینان سے تھی اس کی روزی اس کے پاس با فراوغت ہر جگہ سے چلی آ رہی تھی، پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفر (ناشکری) کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھوک اور ڈر کا مزاچ کھایا جو بدلتھا ان کے کرتو توں کا۔
واللہ المستعان (۲)۔

سنن بنوبی کی جن دلیلوں سے پتہ چلتا ہے کہ (کفر اصغر) دین اسلام سے خارج نہیں کرتا، ان میں سے نبی کریم ﷺ کا درج ذیل فرمان بھی ہے:

(۱) سورۃ النحل: ۱۲۲۔

(۲) مجموع توحید، ارشیف محمد بن عبد الوہاب و شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہما اللہ ص ۶۔

اس نے محمد ﷺ پر نازل کئے گئے دین کا کفر کیا۔
اور اس کی مثالیں بے شمار ہیں۔

شخص اللہ کی مشیت تلے ہوتا ہے، اگر چاہے تو اسے عذاب دے اور پھر اس کے ایمان اور عمل صالح کے سبب اسے جنت میں داخل کر دے اور اگر چاہے تو اسے (بلاعذاب) معاف کر دے (۱)۔

دوسرامطلب:

خطرناک اور بکثرت سرزد ہونے والے نواقض اور تکفیری امور۔
اسلام کو توڑنے والی چیزیں بے شمار ہیں، علماء کرام رحمہم اللہ نے مرتد کے حکم کے بیان میں ذکر کیا ہے کہ مسلمان کبھی کبھار دین اسلام کو توڑنے والی بہت سی چیزوں کے سبب دین اسلام سے مرتد ہو جاتا ہے جو اس کے خون اور مال کو حلال کر دیتی ہیں، اور ان کے سبب وہ شخص دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ان میں سے سب سے زیادہ خطرناک اور بکثرت واقع ہونے والی (درج ذیل) دس چیزیں ہیں (۲)۔

(۱) دیکھئے: فتاویٰ سماحتہ العلامہ ابن باز، جلد ۲، ص ۲۵۰ و ۲۵۱۔

ان تمام نواقض کے لئے امام محمد بن عبد الوہاب رحمہم اللہ کی تالیفات کی طرف رجوع کریں:
پہلی قسم، عقیدہ اور اسلامی آداب، ص ۳۸۵، مجموعۃ التوحید، از شیخ الاسلام ابن تیمیہ و شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہم اللہ، ص ۲۷۰، ۲۷۱۔

دوسرامبحث:

اسلام کو توڑنے اور اس میں نقص پیدا کرنے والے امور۔

پہلامطلب: شریعت کی خلاف ورزیوں کی قسمیں۔

حکم الہی کی مخالفت کی دو قسمیں ہیں:

پہلی قسم: وہ مخالفتیں جو مرتد اکی موجب اور اسلام کو بالکلیہ باطل کر دیتی ہیں، اور اس کا مرتكب کفر اکبر کا مرتكب ہوتا ہے، یہ وہ شخص ہے جو دین اسلام کے منافی کسی امر کا مرتكب ہو۔

دوسری قسم: وہ مخالفتیں جو اسلام کو ضائع نہیں کرتیں بلکہ اس میں نقص پیدا کرتیں اور کمزور کر دیتی ہیں اور ان کا مرتكب اگر توبہ نہ کرے تو اللہ کے غضب و عذاب کے عظیم خطرہ میں ہوتا ہے، وہ عام معاصی ہیں جن کا مرتكب جانتا ہے کہ وہ گناہ ہیں، جیسے زنا کاری، لیکن اسے حلال نہیں سمجھتا ہے تو ایسا

اور اسی میں سے غیر اللہ کے لئے ذبح کرنا بھی ہے، جیسے کوئی شخص جن یا قبر کے لئے ذبح کرے۔

شرک کی تین قسمیں:

پہلی قسم: شرک اکبر جو دین اسلام سے خارج کر دیتا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًاً بَعْدًا﴾ (۱)۔

یقیناً اللہ تعالیٰ اس چیز کو ہرگز نہیں معاف کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ گناہوں کو جس کے لئے چاہے گا بخش دے گا، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرے وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔

اس (شرک اکبر) کی چار قسمیں ہیں:

(۱) سورۃ النساء: ۱۱۶۔

اول: اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک کرنا، اللہ عزوجل کا ارشاد ہے:
 ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ (۱)۔

یقیناً اللہ تعالیٰ اس چیز کو ہرگز نہیں معاف کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ گناہوں کو جس کے لئے چاہے بخش دے گا۔

نیز ارشاد ہے:

﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَا وَرَاهُ النَّارُ، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ (۲)۔

بے شک جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالموں کے لئے کوئی مددگار نہ ہو گا۔

(۱) سورۃ النساء: ۱۱۶۔

(۲) سورۃ المائدہ: ۷۲۔

جو لوگ دنیوی زندگی اور اس کی رونق چاہتے ہیں، ہم انہیں ان کے سارے اعمال کا بدلہ یہیں پھر پور دیدتے ہیں، اور یہاں انہیں کوئی کمی نہیں کی جاتی ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے آخرت میں سوائے آگ کے اور کچھ نہیں اور جو کچھ یہاں انہوں نے کیا ہو گا وہ سب اکارت ہے، اور ان کے سارے اعمال بر باد ہونے والے ہیں۔

۳- اطاعت کا شرک:

یہ اللہ کی نافرمانی میں احبار و رہبان یعنی اپنے علماء اور عبادت گزاروں وغیرہ کی اطاعت کرنا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿اتَّخِذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (۱)۔

ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو اپنا رب

(۱) سورۃ التوبہ: ۳۱۔

۱- دعاۓ کا شرک:
ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ﴾ (۱)۔

تو جب یہ لوگ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں اس کے لئے عبادت کو خالص کر کے، پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف بچلاتا ہے تو اسی وقت شرک کرنے لگتے ہیں۔

۲- نیت، ارادہ اور قصد کا شرک:
ارشاد باری ہے:

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوقٌ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحِيطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (۲)۔

(۱) سورۃ العنكبوت: ۲۵۔

(۲) سورۃ ہود: ۱۴، ۱۵۔

يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿١﴾

تو جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو اسے چاہئے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اور اسی قبیل سے غیر اللہ کی قسم کھانا بھی ہے، ارشاد نبوی ہے: ”من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك“ ﴿٢﴾۔ جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے کفر کیا شرک کیا۔ اور اسی قبیل سے آدمی کا ”اگر اللہ نہ ہوتا اور آپ“ یا ”جو اللہ چاہے اور آپ“ وغیرہ کھانا بھی ہے۔ تیری قسم: شرک خفی:

”الشرک فی هذه الأمة أخفى من دبيب الهمة السوداء على صفةٍ سوداء في ظلمة الليل“ ﴿٣﴾۔

(۱) سورہ الکھف: ۱۱۰۔

(۲) جامع ترمذی برداشت ابن عمر رضی اللہ عنہ: ۲/۱۰، اور علامہ البانی نے اسے صحیح سنن ترمذی (۹۹/۲) میں صحیح قرار دیا ہے۔

(۳) اسے حکیم ترمذی نے روایت کیا ہے، دیکھئے: صحیح الجامع ۳/۲۳۳، و تحریک الطحاویہ از اننوو طبع: ۸۳۔

بنالیا ہے اور مریم کے بیٹے مسیح کو، حالانکہ انہیں صرف ایک تنہ اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا جس کے سوا کوئی معبد حقیقی نہیں، وہ ان کے شرک سے منزہ اور پاک ہے۔

۲- محبت کا شرک:
ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنَدَادًا يُجْبُونَهُمْ كَحْبَ اللَّهِ﴾ ﴿۱﴾۔

اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ اور وہ کو شریک ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہئے۔

دوسری قسم: شرک اصغر جو شرک کو دین اسلام سے خارج نہیں کرتا، معمولی ریاء و نمود اسی قبیل سے ہے، ہم اس سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، ارشاد باری ہے:

﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلَا

(۱) سورہ البقرۃ: ۱۶۵۔

کے بارے میں فرماتے ہیں: ”انداد“ وہ شرک ہے جو رات کی تاریکی میں کالی چٹان پر چیونٹی کی چال سے بھی پوشیدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی کہے: اے فلاں! اللہ کی قسم اور تیری زندگی کی قسم اور میری زندگی کی قسم، اور کہے: اگر اسکی کتیانہ ہوتی تو کل رات ہمارے یہاں چور آ جاتے، اور اگر لٹخ گھر میں نہ ہوتی تو چور آ گھستے، اور آدمی کا اپنے ساتھی سے یہ کہنا کہ: جو اللہ چاہے اور آپ، اور آدمی کا یہ کہنا کہ: اگر اللہ نہ ہوتا اور فلاں (۱)۔
اور نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے:

”من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك“ (۲)۔
جس نے غير اللہ کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا۔

امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض اہل علم کے نزدیک نبی کے فرمان ”فقد كفر أو أشرك“ کی تفسیر یہ کی گئی ہے کہ یہ شدت اور تغليظ

(۱) تفسیر ابن کثیر / ۵۸، نیز دیکھئے: تفسیر طبری، ۳۶۸۔
(۲) جامع ترمذی برداشت ابن عمر رضی اللہ عنہ، ۲/ ۱۱۰، اور امام ترمذی نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے، نیز دیکھئے صحیح سنن ترمذی (۹۹/۲)۔

شرک اس امت میں رات کی تاریکی میں کالی چٹان پر کالی چیونٹی کی چال سے بھی پوشیدہ تر ہے۔

اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ بنده کہے:

”اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئاً و أنا أعلم، وأستغفر لك من الذنب الذي لا أعلم“ (۱)۔

اے اللہ میں تجھ سے اس بات کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ کچھ بھی شریک کروں دراں حالیکہ میں جانتا ہوں، اور میں تجھ سے اس گناہ کی بخشش چاہتا ہوں جو میں نہیں جانتا۔

عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان باری تعالیٰ:

﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلّهِ أَنْدَاداً وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (۲)۔

اللہ تعالیٰ کے لئے شریک نہ بناؤ اس حال میں کہ تمہیں علم ہو۔

(۱) اسے حکیم ترمذی نے روایت کیا ہے، دیکھئے: صحیح الجامع ۳/ ۲۳۳، و مجموعۃ توحید، از احمد بن تیمیہ و محمد بن عبد الوہاب رحمہما اللہ، ص ۶۔

(۲) سورۃ البقرہ: ۲۲۔

”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کہے۔

اور ممکن ہے کہ شرک خفی شرک اصغر میں داخل ہو، تو ایسی صورت میں شرک کی دو ہی قسمیں ہوں گی، شرک اکبر اور شرک اصغر، امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے (۱)۔

دوم: جو اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان واسطے بنائے اور ان کی دہائی دے، ان سے شفاعت کا سوال کرے، ان پر توکل و بھروسہ کرے، تو ایسا شخص متفرقہ طور پر کافر ہے۔

سوم: جو مشرکوں کو کافرنہ قرار دے یا ان کے کفر میں شک کرئے یا ان کے مذہب و عقیدہ کو صحیح جانے، وہ کافر ہے۔

چہارم: جو یہ عقیدہ رکھے کہ نبی کریم ﷺ کے علاوہ کسی کا طریقہ (ہدایت) آپ کی ہدایت سے زیادہ کامل و مکمل ہے، یا آپ کے علاوہ کسی کا حکم (فیصلہ) آپ کے فیصلہ سے بہتر ہے۔ جیسے کچھ لوگ طواغیت کے فیصلہ کو آپ ﷺ کے فیصلہ سے افضل سمجھتے ہیں۔ تو ایسا شخص کافر ہے۔

(۱) دیکھئے: الجواب الکافی لابن القیم، ص ۲۳۳۔

پر محول ہے (یعنی حقیقت مقصود نہیں ہے) اور اس کی دلیل عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ان کو ”وَ أَبِي وَ أَبِي“ (میرے باپ کی قسم، میرے باپ کی قسم) کہتے ہوئے سناتو آپ نے فرمایا:

”أَلَا إِنَّ اللَّهَ يَنْهَا كُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ“ (۱)۔

سن لو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے باپ دادوں کی قسم کھانے سے منع فرماتا ہے۔

اور ابو ہریرہ رضی اللہ کی حدیث جوانہوں نے نبی کریم ﷺ سے روایت کی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

”مَنْ قَالَ فِي حَلْفِهِ بِاللَّاتِ وَالْعَزِيزِ فَلِيقْلُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ (۲)۔

جس نے اپنی قسم میں کہا: ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ تو اسے چاہئے کہ وہ

(۱) جامع ترمذی برداشت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، ۲/۱۰، نیز دیکھئے: صحیح سنن ترمذی، ۲/۹۹۔

(۲) جامع ترمذی برداشت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ۲/۱۰، نیز دیکھئے: صحیح سنن ترمذی، ۲/۹۹۔

اللہ کی حرام کردہ کسی چیز کو جس کی حرمت دین اسلام میں بدیہی طور پر معلوم ہے، حلال سمجھے جیسے زنا، شراب، سودا اور اللہ کی شریعت کے علاوہ سے فیصلہ لینا وغیرہ تو ایسا شخص با تقاض مسلمین کافر ہے۔ ہم اللہ سے اس کے غنیظ و غصب کو واجب کرنے والی چیزوں اور اس کے دردناک عذاب سے اس کی پناہ چاہتے ہیں (۱)۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کی نازل کردہ شریعت کے علاوہ سے فیصلہ لینے یا کرنے کے مسئلہ میں تفصیل ہے، اس سلسلہ میں۔ ان شاء اللہ۔ درست منج حسب ذیل ہے:

اللہ عزوجل کا ارشاد ہے:

﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ (۱)۔

اور جو لوگ اللہ کی نازل کردہ شریعت کے ذریعہ فیصلہ نہ کریں وہی لوگ کافر ہیں۔

(۱) سورۃ المائدۃ: ۳۳۔

اور اس ناقض اسلام (اسلام کو توڑنے والے امر) میں وہ شخص بھی داخل ہے جو یہ عقیدہ رکھے کہ لوگوں کے خود ساختہ قوانین و ضوابط شریعت اسلامیہ سے افضل یا اس کے برابر ہیں، یا یہ کہ ان خود ساختہ قوانین سے فیصلہ لینا جائز ہے گرچہ اس کا یہ عقیدہ بھی ہو کہ شریعت کا فیصلہ اس سے افضل ہے، یا یہ کہ بیسویں صدی میں اسلامی نظام کی عملی تطبیق صحیح نہیں، یا یہ کہ اسلامی نظام مسلمانوں کی پستی و پسماندگی کا سبب ہے، یا یہ کہ اسلامی نظام بندے اور اس کے رب کے تعلقات ہی میں محصور ہے، زندگی کے دیگر شعبوں میں اس کا کوئی دخل نہیں، اسی طرح اس (ناقض) میں وہ شخص بھی داخل ہے جس کا یہ خیال ہو کہ چور کے ہاتھ کا ٹنے یا شادی شدہ زنا کار کے سنگسار کرنے وغیرہ میں اللہ کے حکم کا نفاذ عصر حاضر کے مناسب نہیں ہے، اسی طرح اس میں ہر وہ شخص بھی داخل ہے جو یہ عقیدہ رکھے کہ معاملات یا حدود وغیرہ میں اللہ کی شریعت کے علاوہ سے فیصلہ لینا جائز ہے، گرچہ اس کا عقیدہ یہ نہ بھی ہو کہ وہ فیصلہ شریعت کے فیصلہ سے افضل ہے، کیونکہ ایسا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ متفقہ طور پر اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال سمجھتا ہے، اور ہر وہ شخص جو

نیز ارشاد ہے:

﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (۱)۔

اور جو لوگ اللہ کی نازل کردہ شریعت کے ذریعہ فیصلہ نہ کریں وہی لوگ ظالم ہیں۔

نیز ارشاد ہے:

﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (۲)۔

اور جو لوگ اللہ کی نازل کردہ شریعت کے ذریعہ فیصلہ نہ کریں وہی لوگ فاسق ہیں۔

طاوس و عطاء رحمہما اللہ فرماتے ہیں: ”کفر سے کمتر کفر، ظلم سے کمتر ظلم اور فسق سے کمتر فسق (مراد ہے)“ (۳)۔

(۱) سورۃ المائدہ: ۳۵۔

(۲) سورۃ المائدہ: ۳۷۔

(۳) تفسیر ابن کثیر، ۵۸/۲، نیز دیکھئے تفسیر طبری، ۱۰/۳۵۵۵۔

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: ”اس سے کفر لازم آتا ہے، لیکن اللہ عزوجل، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کا کفر نہیں“ (۱)۔

نیز فرماتے ہیں: ”جس نے اللہ کی نازل کردہ چیز کا انکار کیا اس نے کفر کیا، البتہ جس نے اس کا انکار کیا لیکن اس کے مطابق فیصلہ نہ کیا وہ شخص ظالم اور فاسق ہے“ (۲)۔

صحیح اور درست بات یہ ہے کہ اللہ کی نازل کردہ شریعت کے علاوہ سے فیصلہ کرنے والا بھی تو مرتد (خارج از اسلام) ہو جاتا ہے اور کبھی مسلمان گنگا، اور کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑے گناہ کا مرتكب ہوتا ہے، چنانچہ اسی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ اہل علم نے درج ذیل الفاظ کی دو قسمیں کی ہیں: (ایک قسم تو یہ ہے:) کافر، فاسق، ظالم، منافق اور مشرک، (اور دوسری یہ ہے:) کفر سے کم تر کفر، ظلم سے کمتر ظلم، فسق سے کمتر فسق، نفاق سے کمتر نفاق

(۱) تفسیر ابن جریر، ۱۰/۳۵۶۔

(۲) مرجع سابق، ۱۰/۳۵۶۔

کرنا جائز ہے، تو ایسا شخص بھی کفر اکبر کا مرتكب ہے۔

۳۔ جو یہ کہے کہ میں اس سے فیصلہ کرتا ہوں، اور شریعت اسلامیہ کے ذریعہ فیصلہ کرنا افضل ہے لیکن اللہ کی نازل کردہ شریعت کے علاوہ سے فیصلہ کرنا بھی جائز ہے، تو ایسا شخص بھی کفر اکبر کا مرتكب ہے۔

۴۔ جو یہ کہے کہ میں اس سے فیصلہ کرتا ہوں، حالانکہ اس کا عنیدہ یہ ہو کہ اللہ کی نازل کردہ شریعت کے علاوہ سے فیصلہ کرنا جائز نہیں ہے، اور وہ یہ کہے کہ شریعت اسلامیہ کے ذریعہ فیصلہ کرنا ہی افضل ہے اس کے علاوہ سے فیصلہ کرنا جائز نہیں، لیکن وہ تسلیم (کوتاہی کرنے والا) ہو یا ایسا اپنے حاکموں کے حکم کی تعمیل میں کر رہا ہو تو ایسا شخص کفر اصغر (چھوٹے کفر) کا مرتكب ہے جو اسے دین اسلام سے خارج نہیں کرے گا، اور اسے کبیرہ گناہوں میں سے سمجھا جائے گا،^(۱)

(۱) یہ بات ہمیں شیخ عبدالعزیز بن عبد اللہ بن باز رحمہ اللہ نے پیان فرمائی ہے جو میری پر شل لائبریری میں موجود ایک کیسٹ میں رکارڈ ہے، نیز دیکھئے: فتاویٰ شیخ بن باز، ۱/۱۳۷، نیز تفصیل اور اللہ کی نازل کردہ شریعت کے علاوہ سے فیصلہ کرنا کب کفر اکبر ہوگا (یہ جانتے کے لئے) ڈاکٹر عبدالعزیز آل عبد الملطیف کی کتاب ”نو قض الاسلام القولیہ والعملیہ“ کا مطالعہ فرمائیں، ص ۳۱۱ تا ۳۲۳، تا ۳۲۹، ۳۳۳۔

اور شرک سے مکتشرک، چنانچہ بڑا (کفر و شرک وغیرہ) انسان کو دین اسلام سے خارج کر دیتا ہے، کیونکہ وہ کلی طور پر دین کی بنیادوں کے خلاف ہے، جبکہ چھوٹا ایمان میں کمی پیدا کرتا ہے اور اس کے کمال کے معنافی ہے اور اس کے مرتكب کو اسلام سے خارج نہیں کرتا، اسی لئے علماء کرام نے اللہ کی نازل کردہ شریعت سے فیصلہ نہ کرنے والے کے حکم کے بارے میں تفصیلی گفتگو فرمائی ہے:

سماحت آب امام عبدالعزیز بن عبد اللہ بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا ہے وہ (درج ذیل) چار قسموں میں سے کسی ایک قسم میں ہوگا:

۱۔ جو یہ کہے کہ میں اس (اللہ کی نازل کردہ شریعت کے علاوہ) سے فیصلہ اس لئے کرتا ہوں کہ وہ شریعت اسلامیہ سے افضل ہے، تو ایسا شخص کفر اکبر کا مرتكب ہے۔

۲۔ جو یہ کہے کہ میں اس سے فیصلہ اس لئے کرتا ہوں کہ وہ شریعت اسلامیہ ہی کی طرح ہے، لہذا اس سے اور شریعت اسلامیہ دونوں سے فیصلہ

میں داخل کر دے گا اور اگر چاہے گا تو اس کے گناہوں کے بقدر جن کا ارتکاب کرتے ہوئے اس کی موت واقع ہوئی ہے اسے عذاب دے گا، اور اسے جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ نہیں رکھے گا بلکہ اگر اس کی موت ایمان کی حالت میں ہوئی ہے تو اپنی رحمت اور پھر سفارشیوں کی سفارش کے سبب اسے جہنم سے نکال دے گا (۱)۔

چشم: جو رسول اللہ ﷺ کی لائی ہوئی کسی چیز سے بغض و نفرت کرنے گرچہ اس پر عمل بھی کرے تو ایسا شخص متفقہ طور پر کافر ہے، کیونکہ اللہ عزوجل کا ارشاد ہے:

﴿ذلک بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ فَأَحَبُّطْ أَعْمَالَهُمْ﴾ (۲)۔

یہ اس لئے کہ انہوں نے اللہ عزوجل کی نازل کردہ چیز کو ناپسند کیا تو اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔

(۱) معارج القبول شرح سلم الوصول الی علم اصول التوحید، ۲/۳۲۳۔

(۲) سورۃ محمد: ۹۔

کسی عمل کو فشق یا اس کے مرتكب کو فاسق کا نام دینے اور اسے مسلمان کا نام دیکر اس پر مسلمانوں کے احکام جاری کئے جانے میں کوئی تعارض نہیں ہے، کیونکہ ہر فشق کفر نہیں ہوتا اور نہ کفر، ظلم وغیرہ کے نام سے موسم کیا جانے والا ہر عمل دین اسلام سے خارج کرنے والا ہی ہوتا ہے یہاں تک کہ اس کے لازم و ملزم میں غور کر لیا جائے یہ اس لئے کہ کفر، شرک، ظلم، فشق اور نفاق وغیرہ الفاظ شرعی نصوص میں دو طرح وارد ہوئے ہیں:

(الف) بڑا (کفر، شرک وغیرہ) جو کہ انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے کیونکہ وہ دین کی بنیادوں کے خلاف ہے۔

(ب) چھوٹا، جو کہ ایمان میں نقص پیدا کرتا ہے اور اس کے کمال کے منافی ہے، اپنے مرتكب کو اسلام سے خارج نہیں کرتا، چنانچہ کفر سے کم تر کفر، شرک سے کم تر شرک، ظلم سے کم تر ظلم، فشق سے کم تر فشق اور نفاق سے کم تر نفاق پایا جاتا ہے، اور وہ فاسق جو ایسے گناہوں کا مرتكب ہو جو کفر کو مستلزم نہیں ہیں جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہے گا، بلکہ اس کا مسئلہ اللہ کے سپرد ہے، اگر وہ چاہے گا تو اپنے فضل و کرم سے اسے معاف کر کے پہلے وہله ہی میں جنت

ذیل فرمان ہے:

﴿وَمَا يَعْلَمَنَّ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولُا إِنَّمَا نَحْنُ فَتَّةٌ فَلَا تَكْفُرُ﴾ (۱)۔

وہ دونوں کسی کو بھی جادو نہ سکھاتے تھے یہاں تک کہ (پہلے ہی) کہہ دیتے تھے کہ دیکھو ہم آزمائش کے طور پر بھیجے گئے ہیں لہذا کفر نہ کرنا۔

ہشتم: مشرکین کا سپورٹ اور مسلمانوں کے خلاف ان کی مدد کرنا، دلیل درج ذیل فرمان باری ہے:

﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ (۲)۔

اور تم میں سے جو بھی ان سے دوستانہ رویہ رکھے گا وہ انہی میں سے ہو گا، بیشک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔

(۱) سورۃ البقرہ: ۱۰۲۔

(۲) سورۃ المائدہ: ۵۵۔

ششم: جو شخص رسول اللہ ﷺ کے لائے ہوئے دین میں سے کسی چیز، یا اس کے ثواب، یا اس کے عذاب کا استہزاء و مذاق کرے تو ایسا شخص کافر ہے، اس کی دلیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا درج ذیل فرمان ہے:

﴿قُلْ أَبَاللَّهُ وَآيَاتُهُ وَرَسُولُهُ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ، لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ (۱)۔

آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ اس کی آیتوں اور اس کے رسول ﷺ کا مذاق اڑاتے ہو بہانے نہ بناؤ تم اپنے ایمان کے بعد کافر ہو چکے ہو۔

ہفتم: جادو اور اسی قبیل سے صرف (۲) اور عطف (۳) بھی ہے، جس نے ایسا کیا یا اس سے راضی و خوش ہوا وہ کافر ہے، دلیل اللہ عزوجل کا درج

(۱) سورۃ التوبہ: ۶۴، ۶۵۔

(۲) یہ ایک جادوئی عمل ہے جس سے انسان کو بدلانا اور اس کی خواہش سے پھیرنا مقصود ہوتا ہے، جیسے آدمی کو اپنی بیوی کی محبت سے فررت کی طرف پھیر دینا۔

(۳) یہ بھی ایک جادوئی عمل ہے جس سے آدمی کو کسی ابھی چیز کی رغبت دلانا مقصود ہوتا ہے وہ نہ چاہتا ہو، تو وہ شیطانی کرائم کے ذریعہ میغرض شے سے محبت کرنے لگتا ہے۔

ہونے والے ہیں، لہذا مسلمان کو چاہئے کہ ان تمام امور سے چونکا رہے اور اپنی ذات پر ان سے خطرہ محسوس کرے، ہم اللہ کے غیظ و غضب کو واجب کرنے والی چیزوں اور اس کے دردناک انجام سے اس کی پناہ چاہتے ہیں (۱)۔

تیرا مطلب: نفاق کی قسمیں۔

نفاق کی (کفر ہی کی طرح) دو قسمیں ہیں: ایک نفاق اکبر اور دوسرا (اصل) نفاق سے کم تر نفاق، یا وہ نفاق جو ملت سے خارج کر دیتا ہے اور دوسرا وہ جو ملت سے خارج نہیں کرتا (۲)۔

اولاً: نفاق اکبر (بڑا نفاق):

وہ یہ ہے کہ انسان اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی نازل کردہ کتابوں، اس

(۱) مجموعہ توحید، از شیخ الاسلام ابن تیمیہ و شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہما اللہ، ص ۲۷، ۲۸، ۲۸۰، ۳۸۷، ۳۸۵۔
وتالیفات محمد بن عبد الوہاب رحمہما اللہ، پہلی قسم: عقیدہ اور اسلامی آداب، ص ۱۳۵۔

(۲) نفاق کی لغوی و شرعی تعریف، اس کتاب کے ص (۹۴) میں ملاحظہ فرمائیں۔

نہم: جو یہ عقیدہ رکھے کہ بعض لوگوں کو محمد ﷺ کی شریعت سے نکلنے کا اختیار ہے، جیسا کہ خضر علیہ السلام کو مویٰ علیہ السلام کی شریعت سے نکلنے کی گنجائش تھی تو ایسا شخص کافر ہے۔

وہم: اللہ کے دین سے اعراض کرنا، بایں طور کہ نہ اسے سیکھے اور نہ ہی اس عمل کرے، دلیل درج ذیل فرمان باری ہے:

﴿وَمِنْ أَظْلَمُ مَنْ ذَكَرَ بَايَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ﴾ (۱)۔

اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے وعظ کیا گیا پھر بھی اس نے ان سے منہ پھیر لیا، بیشک ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں۔

ان تمام نواقص میں از راہ مذاق، سنجیدگی سے، اور ڈر کر ارتکاب کرنے والے کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، سوائے مجبور کے (یعنی جس پر دباؤ ڈال کر کروایا گیا ہو) اور یہ تمام امور انتہائی خطرناک اور بکثرت واقع

(۱) سورۃ الحجۃ: ۲۲۔

یہ چیز رسول اللہ ﷺ کے زمانہ مبارک میں موجود تھی اور آپ کے بعد بھی باقی رہی، بلکہ آپ ﷺ کے بعد یہ چیز آپ کے عہد مسعودی کی نسبت کہیں زیادہ پائی گئی... (۱)۔

امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”...رہا نفاق اعتمادی تو اس کی چھ قسمیں ہیں: رسول اللہ ﷺ کی تکذیب، یا رسول اللہ ﷺ کی لائی ہوئی بعض چیزوں کی تکذیب، یا رسول اللہ ﷺ سے بعض ونفرت، یا رسول اللہ ﷺ کے لائے ہوئے دین سے ونفرت، یا رسول اللہ ﷺ کے دین کی پستی سے خوشی، یا رسول اللہ ﷺ کے دین کے غلبہ سے کراہت محسوس کرنا، چنانچہ ان چھ قسموں (میں سے کسی ایک) کا مرتكب جہنم کی سب سے خلیٰ توالوں میں سے ہوگا“ (۱)۔

ان دونوں اماموں (ابن تیمیہ و محمد بن عبد الوہاب رحمہما اللہ) کی ذکر کردہ تفصیلات سے نفاق اکبر کی درج ذیل فتمیں یا نشانیاں معلوم ہوئیں:

(۱) مجموع فتاویٰ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ۲۸۳۲/۲۸۳۲۔

(۱) مجموعہ توحید امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ و شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب، ص: ۷۷۔

کے رسولوں، یوم آخرت اور اچھی بری تقدیر پر ایمان ظاہر کرے لیکن ان تمام یا ان میں سے بعض عقائد کی مخالفت دل میں چھپائے رکھے۔

یہی وہ نفاق ہے جو رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں پایا جاتا تھا، انہی منافقین کی ندمت اور تکفیر کے سلسلہ میں قرآن نازل ہوا اور اس بات کی خبر دی کہ یہ (منافقین) جہنم کی سب سے آخری (خلیٰ تھی) میں ہوں گے (۱)۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے نفاق اکبر کی بعض صورتیں ذکر کی ہیں، چنانچہ فرماتے ہیں: ”ایک نفاق نفاق اکبر ہے جس کا مرتكب جہنم کی سب سے خلیٰ تھی میں ہوگا، جیسے عبد اللہ بن ابی وغیرہ کا نفاق، اور وہ نفاق یہ ہے کہ کھلے طور پر رسول اللہ ﷺ کو جھٹلانے، یا آپ کی لائی ہوئی شریعت کے بعض حصہ کا انکار کرے، یا آپ سے بعض رکھے، یا آپ کی اطاعت کے واجب ہونے کا عقیدہ نہ رکھے، یا آپ کے دین کی پستی سے خوش ہوئی آپ کے دین کا غالبہ اسے نہ بھائے اور اسی طرح کے دیگر امور جن کا مرتكب اللہ اور اس کے رسول ﷺ کا دشمن ہی قرار پاتا ہے۔

(۱) جامع العلوم والحكم، لابن رجب رحمہ اللہ، ۲/ ۳۸۰۔

ثانیاً: نفاق اصغر (چھوٹا نفاق):

یہ عملی نفاق ہے، وہ اس طرح سے کہ کوئی انسان علانية (سامنے) نیکی ظاہر کرے اور اس کے خلاف پوشیدہ رکھے، اس نفاق کی اصل عبداللہ بن عمر اور عائشہ رضی اللہ عنہم کی حدیث کی طرف لوٹی ہے، اس نفاق کی پانچ قسمیں ہیں:

(۱) آدمی کسی سے کوئی بات کہ جس کی وہ تصدیق کر لے جب کہ وہ اس سے جھوٹ کہہ رہا ہو۔

(۲) جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے اور اس کی دو قسمیں ہیں:
الف - یہ کہ وعدہ کرتے وقت ہی اس کی نیت وعدہ پورا کرنے کی نہ ہو یہ وعدہ خلافی کی بدترین قسم ہے، اور اگر یہ کہہ کہ میں ان شاء اللہ ایسا کروں گا جب کہ اس کی نیت نہ کرنے کی ہو، تو امام اوزاعی کے قول کے مطابق (بیک وقت) جھوٹ اور وعدہ خلافی دونوں ہوگی۔

ب - یہ کہ وعدہ کرے اور اس کی نیت (ابتداءً) وعدہ پورا کرنے کی ہو پھر ائے بدل لے اور بلا کسی عذر کے وعدہ خلافی کر جائے۔

۱- رسول اللہ ﷺ کی تکذیب۔

۲- رسول اللہ ﷺ کی لائی ہوئی بعض چیزوں کی تکذیب۔

۳- رسول اللہ ﷺ سے بغض و نفرت۔

۴- رسول اللہ ﷺ کی لائی ہوئی بعض چیزوں سے نفرت۔

۵- رسول اللہ ﷺ کے دین کی پستی سے خوشنی۔

۶- رسول اللہ ﷺ کے دین کے غلبہ سے کراہت و ناپسندیدگی۔

۷- رسول اللہ ﷺ نے جن باتوں کی خبر دی ہے ان میں آپ کی تصدیق کے واجب ہونے کا عقیدہ نہ رکھنا۔

۸- رسول اللہ ﷺ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان میں آپ کی اطاعت کے واجب ہونے کا عقیدہ نہ رکھنا۔

ان کے علاوہ وہ سارے اعمال جن کے ملت اسلام سے خارج کرنے والے نفاق اکبر ہونے پر کتاب و سنت دلالت کرتے ہیں (۱)۔

(۱) دیکھئے: نو قض الاسلام الاعتقادیہ وضوابط التکفیر عند السلف، از ڈاکٹر محمد بن عبد اللہ الوبیی/۲۔

یہ نفاق دین اسلام سے خارج نہیں کرتا، بلکہ یہ (اصل) نفاق سے کتر نفاق ہے، عبداللہ بن عمر و رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ومن كانت فيه خصلة منها كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر“ (۱)۔

چار خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں وہ پائی جائیں گی وہ خالص (پاک) منافق ہو گا، اور جس میں ان میں سے ایک خصلت ہو گی اس میں نفاق کی ایک خصلت ہو گی یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب معاهدہ کرے تو دھوکہ دے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے اور جب جھگڑا کرے تو بیہودہ گوئی کرے۔

(۱) صحیح بخاری مع فتح الباری، ۱/۸۹ و صحیح مسلم، ۱/۲۸۷۔

(۳) جب جھگڑا تکرار کرے تو بیہودہ گوئی سے کام لے، یعنی قصد احت سے نکل جائے یہاں تک کہ حق باطل اور باطل حق ہو جائے، یہ دروغ گوئی پر آمادہ کرنے والی شے ہے۔

(۴) جب معاهدہ کرے تو دھوکہ دے اور عہد پورا نہ کرے، خواہ مسلمانوں سے ہو یا غیر مسلموں سے، دھوکہ ہر عہد و پیمان میں حرام ہے اگرچہ معاهد (جس فریق کے ساتھ معاهدہ ہوا ہے) کافر ہی کیوں نہ ہو۔

(۵) امانت میں خیانت، چنانچہ جب مسلمان کے پاس کوئی چیز بطور امانت رکھی جائے تو اس پر اس کی ادائیگی واجب ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ نفاق اصغر مکمل طور پر ظاہر و باطن، دل و زبان اور دخول و خروج کے اختلاف پر ہے، اسی لئے سلف کی ایک جماعت نے کہا ہے: ”نفاق کا خشوع یہ ہے کہ تم دیکھو کہ جسم سے تو خشوع کا اظہار ہو رہا ہے لیکن دل خشوع سے خالی ہے“ (۱)۔

(۱) دیکھئے: جامع العلوم و الحکم لابن رجب / ۲ - ۳۹۵ - ۳۸۰، انہوں نے موضوع کی کماحدہ وضاحت کی ہے اور بہت سارے فوائد ذکر کئے ہیں، الہزار جو ع کریں، نیز دیکھئے: مجموعۃ التوجیہ، ص ۷۔

الضر عنكم ولا تحويلًا، أولئك الذين يدعون يبتغون
إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ﴿١﴾۔

آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جنہیں تم معبد سمجھ رہے ہو انہیں پکارو
لیکن وہ کسی تکلیف کو نہ تو تم سے دور کر سکتے ہیں اور نہ ہی بدل سکتے
ہیں، جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کے تقرب کی جستجو
میں رہتے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ نزدیک ہو جائے۔
چنانچہ کسی بھی نبی، یا ولی، یا صاحب (نیکوکار) کو پکارنے والا، اور ان میں
الوہیت کا تصور رکھنے والا اس آیت کریمہ کے حکم میں شامل ہے، کیونکہ یہ
آیت کریمہ ہر اس شخص کو عام ہے جو اللہ کے سوا کسی کو پکارے، حالانکہ وہ
پکاری جانے والی ذات خود اللہ کے وسیلہ کی مثالی، اس کی رحمت سے پُر
امید، اور اس کے عذاب سے خائف ہو، لہذا جس کسی نے کسی مردہ، یا غائب بھی
یا صاحب (نیکوکار) کو استغاثہ (فریادری) یا کسی اور لفظ سے پکارا، تو اُس نے
اُس شرک اکبر کا ارتکاب کیا جسے اللہ تعالیٰ توبہ کے بغیر معاف نہیں کر سکتا۔

(۱) سورۃ الاسراء: ۵۶، ۵۷۔

اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے
فرمایا:

”آیة المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد
أخلف، و إذا ائتمن خان“ (۱)۔

منافق کی تین نشانیاں ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب
 وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے اور جب اس کے پاس امانت رکھی
جائے تو خیانت کرے۔

چوتھا مطلب: قبروں کے پاس انجام دیجانے والی بدعاات۔

پہلی قسم: میت (مردے) سے حاجت برداری کا سوال کرنا (۲)، ایسا
کرنے والے بت پرستوں کے زمرہ میں شامل ہیں، ارشاد باری ہے:

﴿قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ

(۱) صحیح بخاری مع فتح الباری، ۱/۸۹ و صحیح مسلم، ۱/۷۸۔

(۲) بدعت کی لغوی و اصطلاحی تعریف اس کتاب کے ص (۱۰۰) میں ملاحظہ فرمائیں۔

وغیرہ، تو یہ ساری باتیں بدترین قسم کی بدعتات ہیں۔ سنت رسول ﷺ میں صرف اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات، اعمال صالحہ (جیسا کہ صحیح بخاری و مسلم میں اہل غار کے واقعہ میں وارد ہے) اور زندہ حاضر مومن و متقیٰ کی دعا کا سیلہ جائز ہے۔

تیسرا قسم: کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ قبروں کے پاس دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، یا مسجد میں دعا کرنے کی بہ نسبت وہاں دعا کرنا زیادہ افضل ہے، اور پھر اس غرض سے وہ قبروں کا قصد کرے، تو یہ ساری حرکتیں متفقہ طور پر حرام اور ناجائز ہیں، اس سلسلہ میں انہمہ اسلام میں کسی کا کوئی اختلاف ہمیں معلوم نہیں، چنانچہ یہ ایک ایسا عمل ہے جسے نہ تو اللہ تعالیٰ نے مشروع کیا ہے نہ اس کے رسول ﷺ نے، اور نہ ہی صحابہ کرام، تابعین اور انہمہ اسلام میں سے کسی نے انجام دیا ہے، صحابہ کرام عہد رسالت کے بعد کئی مرتبہ قحط سالی سے دوچار ہوئے، مصائب کا شکار ہوئے لیکن کبھی بھی رسول ﷺ کی قبر کے پاس نہ آئے، بلکہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ (رسول اللہ ﷺ کے پیچا) عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکلے اور ان سے طلب باراں کے لئے دعا

جس کسی نے کسی نبی، یا صاحب کی ذات میں غلوکیا، یا اس میں کسی بھی قسم کی عبادت کا تصور کیا، مثلاً یہ کہا کہ ”اے میرے فلاں سردار میری مدد کیجئے“ یا ”میری اعانت کیجئے“ یا ”میری فریاد سنئے“ یا ”مجھے روزی دیجئے“ یا ”میں آپ کی حفاظت میں ہوں“ وغیرہ، تو یہ ساری باتیں شرک باللہ اور ضلالت و گمراہی ہیں، اس کے مرتكب سے توبہ کروائی جائے گی، اگر توبہ کر لے تو ٹھیک ورنہ اسے قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اسی لئے بھیجے ہیں اور کتاب میں اسی لئے اتاری ہیں کہ دنیا میں صرف اسی کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی اور کوشش کی نہ کیا جائے۔

دوسری قسم: میت کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، یہ دین اسلام میں ایک نوایجاد بدعت ہے، البتہ یہ قسم پہلی قسم کی طرح نہیں ہے، کیونکہ یہ شرک اکبرتک نہیں پہنچتی، اور لوگ جوانبیاء و صالحین کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، مثلاً کہتے ہیں: ”اے اللہ میں تجوہ سے تیرے نبی، یا تیرے انبیاء، یا تیرے فرشتوں، یا تیرے نیک بندوں، یا شیخ فلاں کے حق یا اس کی حرمت کے وسیلے سے، یا لوح و قلم کے واسطے سے تجوہ سے دعا کرتا ہوں“

سلام مجھے پہنچ جائے گا۔

اس حدیث سے وجہ استدلال یہ ہے کہ جب نبی کریم ﷺ کی قبر مبارک جو روئے زمین پر پائی جانے والی تمام قبروں سے افضل ہے، اسے اللہ کے رسول ﷺ نے عید (میلادِ حیلہ) بنانے سے منع فرمایا ہے، تو دیگر قبروں کے پاس اس غرض سے جانا بدرجہ اولیٰ حرام اور منوع ہو گا، خواہ وہ کسی کی قبر ہو (۱)، نیز ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”لا تجعلوا بيوتكم قبوراً ولا تجعلوا قيري عيداً،
وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيشما كنتم“ (۲)
اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اور میری قبر کو عید (میلادِ حیلہ) نہ بناؤ،
اور مجھ پر درود بھجتے رہو کیونکہ تمہارا درود مجھے پہنچتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔

(۱) الدرر السعیون فی الاجوبۃ انجدیہ، از عبدالرحمن بن قاسم، ۶/۱۲۵-۱۲۷۔

(۲) سنن ابو داود، ۲/۲۱۸، و مسند احمد، ۳/۳۷۷، ۲/۲، علامہ البانی نے اسے اپنی کتاب تذکرہ الساجد میں ذکر کیا ہے۔

کروائی، سلف صالحین رحمہم اللہ قبروں کے پاس دعا کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے، چنانچہ علی بن الحسین رضی اللہ عنہما نے ایک شخص کو رسول اللہ ﷺ کی قبر کے پاس موجود ایک شگاف میں داخل ہو کر دعا کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا: کیا میں تمہیں ایک حدیث نہ سناؤں جسے میں نے اپنے والد اپنے دادا کے واسطے سے اللہ کے رسول ﷺ سے سنی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

”لا تجعلوا قيري عيداً، ولا تجعلوا بيوتكم قبوراً،
وصلوا علي وسلموا حيشما كنتم ، فسيبلغني سلامكم
وصلاتكم“ (۱)۔

میری قبر کو عید (میلادِ حیلہ) نہ بناؤ، اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ،
اور جہاں کہیں بھی رہو مجھ پر درود و سلام بھجتے رہو کیونکہ تمہارا درود

(۱) فضل الصلاة على النبي ﷺ، از امام اسما علیل قاضی، ص: ۳۳۲، اور علامہ البانی نے اسے اسی کتاب میں صحیح قرار دیا ہے، اور اس کی بہت ساری سندیں ہیں جنہیں اپنی کتاب تذکرہ الساجد میں اتخاذ القبور مساجد (ص: ۱۳۰) میں ذکر فرمایا ہے۔

تیسرا بحث: تکفیری امور کی بنیادیں۔

تمام تکفیری اسباب چار نواقض میں داخل ہیں: قول، یافھل، یا اعتقاد، یا شک اور تردد۔

امام دوراں سماحت مآب علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز - اللدان پر رحم فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ فرماتے ہیں: ”اسلامی عقیدہ کے کچھ قوادح (خراب کرنے والے امور) ہیں، ان کی دو قسمیں ہیں: ایک قسم تو وہ ہے جو اس عقیدہ کو توڑ دیتے اور اسے رایگاں کر دیتے ہیں اور ان کا مرتکب کافر ہو جاتا ہے۔ ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اور دوسری قسم وہ ہے جو اس عقیدہ میں نقص پیدا کرتے ہیں اور اسے کمزور کر دیتے ہیں:

پہلی قسم: دائرہ کفر میں داخل کردینے والی برائیاں:

نواقض اسلام دین اسلام سے مرتد ہونے کا سبب ہیں جنہیں ”نواقض“ کہا جاتا ہے، قول، عمل، عقیدہ اور شک سب نقض ہو سکتا ہے۔

چنانچہ انسان کبھی کوئی بات کہہ کر یا کوئی عمل کر کے یا کوئی عقیدہ رکھ کر یا شک و شبہ میں بنتلا ہو کر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ان چاروں چیزوں

میں سے کوئی ایسا نقض سرزد ہو جاتا ہے جو انسان کے عقیدہ میں خلل انداز ہوتا ہے اور اسے ضائع کر دیتا ہے، اہل علم نے ان چیزوں کو اپنی کتابوں میں ”مرتد کے حکم کا بیان“ کے نام سے ذکر کیا ہے، اور اہل علم کا جو بھی مذہب یا فقہاء میں سے جو بھی فقیہ کتابیں تالیف کرتا ہے، عام طور سے جب حدود کا ذکر کرتا ہے تو مرتد کے حکم کا بیان ضرور کرتا ہے، یعنی وہ شخص جو اسلام لانے کے بعد کافر ہو جائے، یہی مرتد کہلاتا ہے، یعنی دین اسلام سے پھر جانے والا ایسے شخص کے بارے میں نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے:

”من بدل دینہ فاقٹلوه۔“
جو اپنادین بدل دے اسے قتل کر دو۔

اسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی ”صحیح“ میں روایت کیا ہے (۱)۔
نیز صحیحین میں (۲) ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ

(۱) صحیح بخاری مع ق ث الباری، ۳۳۹/۱۳، حدیث (۳۰۱۷)۔

(۲) صحیح بخاری، حدیث (۹۲۳) و صحیح مسلم، حدیث (۱۷۳۳) [۱۵]، یہ الفاظ مسلم کے ہیں، کتاب الامارہ، باب فی الْئَنْهِ عن طلب الْأَمَارَةِ وَالْجُرْمِ عَلَيْهَا۔

کفر اور گمراہی پر اڑا رہے تو اسے قتل کر دیا جائے گا اور فوری طور پر کیفر کردار (جہنم) تک پہنچا جائے گا، کیونکہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے:

”من بدل دینہ فاقتلوه“ (۱)۔

جو اپنادین بدل دے اسے قتل کر دو۔

۱- قول کے سبب ارتدا:

دین اسلام کو باطل کرنے والے نواقض بے شمار ہیں، ان میں سے ایک قول ہے: جیسے اللہ تعالیٰ کو گالی دینا (برا بھلا کہنا)، یہ ایسی بات ہے جو اسلام کو باطل کر دیتی ہے، نیز اللہ کے رسول ﷺ کو گالی دینا، اللہ عز وجل اور رسول اللہ ﷺ پر لعنت کرنے، انہیں برا بھلا کہنے یا ان پر عیب لگانے کا مطلب یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پر یہ کہ اللہ تعالیٰ ظالم ہے، اللہ تعالیٰ بخیل ہے، اللہ تعالیٰ فقیر و محتاج ہے، اللہ تعالیٰ بعض چیزوں کو نہیں جانتا ہے، یا اسے بعض چیزوں پر قدرت نہیں ہے، یہ ساری باتیں دین اسلام سے مرتد کرنے والی ہیں۔

(۱) صحیح بخاری، حدیث (۲۷۳۰)

کوئین کی طرف روانہ فرمایا، پھر ان کے پیچھے معاذ رضی اللہ عنہ کو بھی بھیجا، چنانچہ جب معاذ رضی اللہ عنہ ان کے پاس پہنچ گئے انہوں نے فرمایا: تشریف لائیے اور ان کے لئے تکیہ لگوایا، انہوں نے دیکھا کہ وہیں ایک شخص بندھا ہوا ہے، فرمایا: یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے جواب دیا: یہ یہودی تھا، پھر اسلام قبول کر لیا اور پھر دوبارہ اسلام سے مرتد ہو کر یہودی ہو گیا! انہوں (معاذ رضی اللہ عنہ) نے فرمایا: میں اس وقت تک نہ بیٹھوں گا جب تک کہ اسے قتل نہ کر دیا جائے، یہی اللہ اور اس کے رسول ﷺ کا فیصلہ ہے، انہوں نے فرمایا: ٹھیک ہے، آپ تشریف تو رکھیں! فرمایا: میں اس وقت تک نہ بیٹھوں گا جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے فیصلہ کے مطابق اسے قتل نہ کر دیا جائے! (تین مرتبہ ایسا ہی ہوا) بالآخر انہوں نے حکم دیا اور اسے قتل کر دیا گیا۔

اس سے معلوم ہوا کہ دین اسلام سے مرتد ہونے والا اگر توبہ نہ کرے تو اسے قتل کر دیا جائے گا، پہلے اس سے توبہ کروائی جائے گی اگر وہ توبہ کر لے اور دین اسلام کی طرف پلٹ جائے تو الحمد للہ، اور اگر توبہ نہ کرے بلکہ اپنے

کافر ہو جائے گا، البتہ اگر وہ مسلمانوں کے درمیان رہتا ہو، اسے دینی مسائل کا علم ہو، اور کہے کہ نماز فرض نہیں ہے، تو ایسا شخص اسلام سے مرتد ہے، اس سے توبہ کرائی جائے گی اگر توبہ کر لے تو ٹھیک ورنہ اسے قتل کر دیا جائے گا۔ یا یہ کہے کہ لوگوں پر زکاۃ فرض نہیں ہے، یا یہ کہے کہ لوگوں پر ماہ رمضان کے روزے فرض نہیں ہیں، یا یہ کہے کہ استطاعت کے باوجود مسلمانوں پر حج فرض نہیں ہے، تو یہ ساری باتیں کہنے والا بالاتفاق کافر ہو جائے گا، اس سے توبہ کرائی جائے گی، اگر توبہ کر لے تو ٹھیک ورنہ اسے قتل کر دیا جائے گا۔ ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، یہ ساری باتیں قولی (زبانی) ارتداد ہیں۔

۲- فعل کے سبب ارتداد:

عملی ارتداد: جیسے نماز کا ترک کرنا، چنانچہ انسان کا نمازنہ پڑھنا خواہ وہ اس بات کا اقرار بھی کرتا ہو کہ نماز فرض ہے، لیکن پڑھنا نہ ہو تو اہل علم کے صحیح قول کے مطابق ایسا شخص دین اسلام سے مرتد ہو جائے گا، کیونکہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے:

”الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا“

جس نے اللہ عزوجل کی تنقیص کی یا برا بھلا کہا، یا کسی طرح عیب جوئی کی تو ایسا شخص - ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں - کافر اور دین اسلام سے خارج ہے، یہ زبانی ارتداد ہے، جب انسان اللہ کو گالی دے (برا بھلا کہے) یا اس کا مذاق اڑائے یا اس کی تنقیص کرے یا اسے کسی ایسے وصف سے متصف کرے جو اس کے شایان شان نہیں، جیسے یہودی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بخیل ہے، اللہ تعالیٰ بحتاج ہے اور ہم مالدار ہیں، اسی طرح اگر یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ بعض چیزیں نہیں جانتا ہے یا اسے بعض چیزوں پر قدرت نہیں ہے، یا اللہ کی صفات کا انکار کرے ان پر ایمان نہ لائے، تو ایسا شخص اپنے ان برے اقوال کے سبب مرتد ہو جائے گا۔

یامثال کے طور پر یہ کہے کہ اللہ نے ہم پر نماز فرض نہیں کی ہے تو یہ بھی دین اسلام سے خروج ہے، جو شخص یہ کہے کہ اللہ عزوجل نے نماز فرض نہیں کی تو ایسا شخص مسلمانوں کے متفقہ فیصلہ کے مطابق مرتد ہو جائے گا، سوائے اس کے کہ اس بات کا علم نہ ہو وہ مسلمانوں سے دور ہو، نہ جانتا ہو تو اسے اس کی تعلیم دی جائے گی، لیکن اگر بتانے کے باوجود وہ اسی پر مصر ہو تو

فقد کفر۔

ہمارے اور ان کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز ہے، جس نے اسے ترک کر دیا اس نے کفر کیا۔

اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ رحمہم اللہ نے صحیح سند سے روایت کیا ہے (۱)، نیز آپ ﷺ کا ارشاد ہے:

”بین الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة۔“

آدمی اور کفر و شرک کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔

اسے امام مسلم رحمہم اللہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے (۲)۔

شقيق بن عبد اللہ عقیل رحمہم اللہ - حن کی جلالت شان مسلم ہے۔ فرماتے ہیں: ”محمد ﷺ کے صحابہ اعمال میں سے کسی بھی چیز کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے۔“

(۱) منhadīm، ۳۸۶/۵، جامع ترمذی، ۱۷/۵، حدیث (۲۶۲۳)، سنن النسائی، ۱/۲۳۱، ۲۳۲، وسنن ابن ماجہ، حدیث (۹۰۷۹) بریوہ رضی اللہ عنہ، نیز دیکھئے: صحیح سنن ترمذی، ۳۲۹/۲

(۲) صحیح مسلم، ۱/۸۸، حدیث (۸۲)۔

اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے (۱) اور اس کی سند صحیح ہے۔
یہ ایک عملی ارتداد ہے یعنی نماز کو قصد اترک کر دینا۔
اسی قبیل سے یہ بھی ہے کہ کوئی قرآن کریم کی بے حرمتی کرے، اس کی بے ادبی کرتے ہوئے اس پر بیٹھئے یا جان بوجھ کر اسے نجاست اور گندگی میں لٹ پت کرے یا اس کی توہین کرتے ہوئے اسے اپنے پیروں سے روندے تو ایسا شخص ان اعمال کے سبب دین اسلام سے مرتد ہو جائے گا۔
نیز عملی ارتداد کے ضمن میں یہ بھی ہے کہ کوئی اہل قبر کی قربت کے لئے ان کی قبروں کا طواف کرے، یا ان کے لئے یا جنوں کے لئے نماز پڑھے یہ عملی ارتداد ہے، البتہ انہیں پکارنا، ان سے مد طلب کرنا اور ان کے لئے نذر و نیاز ماننا وغیرہ قولی ارتداد ہے۔
رہا مسئلہ اس شخص کا جو اللہ کی عبادت کی نیت سے قبروں کا طواف کرئے تو یہ دین اسلام میں بدترین قسم کی بدعت ہے، یہ ارتداد نہیں ہے بلکہ دین میں ایک گھناؤنی قسم کی بدعت ہے بشرطیکہ وہ اس کے ذریعہ قبر والے کی

(۱) سنن ترمذی، حدیث (۲۶۲۳)۔

عزوجل محتاج اور فقیر ہے یا بخیل ہے گرچہ اسے اپنی زبان سے نہ کہے، عملاً اسے انجام نہ دے، محض اپنے اس فاسد عقیدہ ہی کی بنیاد پر مسلمانوں کے متفقہ فیصلہ کے مطابق کافر ہو جائے گا۔

یا اپنے دل میں یہ عقیدہ رکھے کہ بعث (مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا) اور نشور (میدانِ محشر میں اکٹھا کیا جانا) کوئی چیز نہیں اور اس سلسلہ میں جو با تیں آتی یا بیان کی جاتی ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں، یا اپنے دل میں یہ عقیدہ رکھے کہ جنت یا جہنم کا کوئی وجود نہیں اور نہ ہی کسی دوسری زندگی کا کوئی تصور ہے جب انسان ان باتوں کا دل میں عقیدہ رکھے گا خواہ زبان سے نہ بھی کہے تو۔ ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ وہ کافر اور دین اسلام سے مرتد ہو جائے گا، اس کے سارے اعمال ضائع اور بر باد ہو جائیں گے اور اس فاسد عقیدہ کی بنیاد پر اس کا ابدی ٹھکانہ جہنم ہو گا۔

اسی طرح اگر اپنے دل میں یہ عقیدہ رکھے۔ گرچہ زبان سے نہ بھی کہے۔ کہ محمد ﷺ پچھے نبی نہیں ہیں، یا وہ آخری نبی نہیں ہیں، یا ان کے بعد بھی انبیاء مبعوث کئے جائیں گے، یا یہ عقیدہ رکھے کہ مسیلہ کذاب سچا نبی تھا، تو

قربت ناچاہتا ہو بلکہ محض جہالت کی بنیاد پر اللہ کی قربت کے حصول کی خاطر ایسا کیا ہو۔

کفر عملی ہی کے قبل سے یہ بھی ہے کہ انسان غیر اللہ کے لئے ذبح کرے اور قربانیوں کے ذریعہ غیر اللہ ہی کی قربت حاصل کرے، اونٹ یا کبری، یا مرغی، یا گائے اہل قبر سے قربت اور ان کی عبادت کے غرض سے ذبح کرے، یا جنوں کی عبادت کے لئے ذبح کرے، یا ستاروں کی قربت کی غرض سے ان کے لئے ذبح کرے، ان تمام صورتوں میں چونکہ (جانور) غیر اللہ کے لئے ذبح کیا گیا ہے اس لئے وہ مردار اور حرام ہے، اور یہ عمل کفر اکابر ہے۔ ہم اللہ سے عافیت مانگتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اسلام سے ارتدا دی کی قسموں میں سے اور عملی نواقض ہیں۔

۳۔ عقیدہ کے سبب ارتدا دا:

عقیدہ یعنی انسان جن باتوں کا محض اپنے دل میں عقیدہ رکھے اس کو عملاً انجام نہ بھی دے اور زبان سے نہ بھی کہے اس کے ذریعہ ارتدا دی کی قسموں میں سے یہ ہے کہ مثال کے طور پر وہ اپنے دل میں یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ

﴿وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهٌ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ (۱)۔

اور تمہارا معبود حقیقی ایک ہی ہے جس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں وہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔

نیز ارشاد ہے:

﴿إِيَّاكُمْ نَعْبُدُ وَإِيَّاكُمْ نَسْتَعِينَ﴾ (۲)۔

ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے ہی سے مدد مانگتے ہیں۔

نیز ارشاد ہے:

﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ (۳)۔

تمہارے رب نے فیصلہ فرمادیا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو۔

نیز ارشاد ہے:

(۱) سورۃ البقرۃ: ۱۶۳۔

(۲) سورۃ الفاتحۃ: ۵۔

(۳) سورۃ الاسراء: ۲۳۔

ایسا شخص اس عقیدہ کی بنیاد پر کافر ہو جائے گا۔

یا اپنے دل میں یہ عقیدہ رکھے کہ نوح، یا موسیٰ یا عیسیٰ یا ان کے علاوہ دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سب کے سب یا ان میں سے کوئی جھوٹا تھا، تو ایسا شخص دین اسلام سے مرتد ہو جائے گا۔

یا یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ عزوجل کے ساتھ کسی اور کوپکار نے میں کوئی حرج نہیں جیسے انبیاء یا ان کے علاوہ دیگر لوگ، یا سورج اور ستارے یا ان کے علاوہ کوئی اور چیز، اگر کوئی شخص اپنے دل میں یہ عقیدہ رکھے تو وہ دین اسلام سے مرتد ہو جائے گا، کیونکہ اللہ عزوجل کا ارشاد ہے:

﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ﴾ (۱)۔

یہ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور اس کے علاوہ جیسے یہ پکارتے ہیں وہ باطل ہے۔

نیز ارشاد ہے:

(۱) سورۃ الحج: ۲۲۔

﴿فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لِهِ الدِّينَ وَلَا كُرْهَةَ﴾

﴿الكافرون﴾ (۱)۔

لہذا جس نے یہ گمان کیا یا عقیدہ رکھا کہ اللہ عزوجل کے ساتھ کسی فرشتہ یا
نبی یا درخت یا جن یا اس کے علاوہ کسی اور چیز کی عبادت کرنی جائز ہے تو ایسا
شخص کافر ہے، اور اگر یہ بات وہ زبان سے کہہ بھی دے تو وہ بیک وقت

زبان اور عقیدہ دونوں سے کافر ہو جائے گا۔ اور اگر وہ اس کام کو عملًا انجام بھی
دے دے اور غیر اللہ کو پکارے اور غیر اللہ سے فریاد کرے تو قول، عمل اور
عقیدہ سب سے کافر ہو جائے گا، ہم اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔
اور اسی قبیل سے قبر پرستوں کے وہ اعمال بھی ہیں جنہیں آج کل وہ
بہت سے ممالک میں مردوں کو پکارنے ان سے فریاد کرنے اور ان سے مدد
طلب کرنے کی شکل میں انجام دیتے ہیں، چنانچہ کوئی کہتا ہے: ”اے میرے
سردار! مدد کیجئے، مدد کیجئے“ اے میرے سردار! میری فریاد سنئے، میری فریاد
سنئے، میں آپ کے پاس ہوں، میرے مریض کو شفاء دیجئے، میری کھوئی ہوئی
ہو جائیں گے۔

مردوں کو جنہیں وہ اولیاء کا نام دیتے ہیں۔ پکارتے ہیں اور ان سے یہ

﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتُ لِيْجَنْ طَنْ عَمَلَكَ وَلَتَكُونُنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (۲)۔

یقیناً آپ کی طرف اور جو لوگ آپ سے پہلے تھے ان کی طرف وحی
کی گئی تھی کہ اگر آپ نے (بھی) شرک کیا تو آپ کا عمل ضائع
ہو جائے گا اور لازمی طور پر آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے
ہو جائیں گے۔

(۱) سورۃ غافر (المؤمن) : ۱۷۔

(۲) سورۃ الزمر : ۲۵۔

۲- شک و شبہ کے سبب ارتداو:

ہم نے (آپ کے سامنے) قول، عمل اور عقیدہ کے سبب ہونے والا ارتداو پیش کیا، جہاں تک شک کے سبب ارتداو کا مسئلہ ہے تو وہ یوں ہے کہ مثال کے طور پر کوئی کہے: میں نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ حق ہے یا نہیں؟... مجھے شک ہے! تو ایسا شخص شک کے سبب کافر ہو جائے گا، یا یہ کہے کہ: میں نہیں جانتا کہ مرنے کے بعد دو بارہ اٹھایا جانا حق یا نہیں؟ یا یہ کہے کہ: مجھے نہیں معلوم کہ جنت و جہنم حق ہیں یا نہیں؟... میں نہیں جانتا، مجھے شک ہے؟ تو اس قسم کے آدمی سے توبہ کروائی جائے گی، اگر توبہ کر لے تو ٹھیک ورنہ اسے کفر کے سبب قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ اس نے نص اور اجماع کے ذریعہ اسلام میں ایک بدیہی طور پر معلوم چیز کے بارے میں شک کیا ہے۔

جو شخص اپنے دین میں شک کرے اور کہے کہ میں نہیں جانتا کہ کیا اللہ حق ہے؟ یا رسول حق ہے؟ آیا وہ سچے ہیں یا جھوٹے؟ یا یہ کہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ کیا وہ آخری نبی تھے؟ یا یہ کہے کہ میں نہیں جانتا کہ مسیلمہ جھوٹا تھا یا نہیں؟ یا یہ کہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ کیا اسود عنسی۔ جس نے یمن میں نبوت کا دعویٰ کیا

(مذکورہ) سوالات کرتے ہیں، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور اس کے ساتھ غیروں کو شریک کیا، اللہ عز و جل کی شان عظمت اس سے بلند تر ہے۔ چنانچہ یہ ساری چیزیں زبان، عقیدہ اور عمل کا کفر ہیں۔

اور بعض لوگ دوری اور دور دراز شہروں اور ملکوں سے پکارتے ہیں اور کہتے ہیں: اے اللہ کے رسول ﷺ میری مد کبھی!... وغیرہ، اور بعض لوگ آپ کی قبر کے پاس آ کر کہتے ہیں: اے اللہ کے رسول! میرے بیمار کو شفا دیجئے، اے اللہ کے رسول! مد کبھی! مد کبھی! ہمارے دشمنوں کے خلاف ہماری مد کبھی!، ہم جن پر یہاںیوں میں بتلا ہیں آپ ان سے بخوبی واقف ہیں، لہذا ہمارے دشمنوں کے خلاف ہماری مدد فرمائیے۔

حالانکہ رسول اللہ ﷺ غیب نہیں جانتے، غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، یہ ساری چیزیں زبان و عمل کا شرک ہیں، اور اگر انسان اس کے ساتھ یہ عقیدہ بھی رکھے کہ ایسا کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، تو وہ ایسا شخص قول، عمل اور عقیدہ ہر طرح سے کافر ہو جائے گا، ہم اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔

لہذا ان تمام باتوں یعنی نماز، زکاۃ، روزہ اور حج کے بارے میں یہ ایمان رکھنا واجب ہے کہ یہ حق اور تمام مسلمانوں پر شرعی شروط کی روشنی میں واجب ہیں (۱)۔

رہا عارضی و سوسہ اور دل کے کھٹکے تو ان سے کوئی نقصان نہیں ہوتا بشرطیکہ مومن انہیں دفع کرتا رہے اور ان سے اظہار اطمینان نہ کرے اور وہ اس کے دل میں پیوست نہ ہونے پائیں، کیونکہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے:

”إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأَمْتِي مَا حَدَثَتْ بِهِ أَنفُسَهَا مَا لَمْ يَتَكَلَّمُوا أَوْ يَعْمَلُوا بِهِ“ (۲)۔

اللہ تعالیٰ نے میری امت کے جی میں پیدا ہونے والے خیالات کو معاف کر دیا ہے جب تک کہ وہ اسے کہندیں یا اس پر عمل نہ کر لیں۔ اور ایسے شخص کو چاہئے کہ وہ درج ذیل اعمال کرے:

(۱) دیکھئے: عقیدہ کی خرابیان اور ان سے بچنے کے طریقہ، از ساختہ اشخ امام عبد العزیز بن عبد اللہ بن باز، ص ۲۲۷، معمولی تصرف کے ساتھ۔

(۲) صحیح مسلم، ۱/۱۶۔

تھا۔ جھوٹا تھا یا نہیں؟ یہ تمام شکوہ دین اسلام سے ارتداد کا سبب ہیں، ان کے مرتكب سے توبہ کرائی جائے گی، اور اس کے سامنے حق کھول کھول کر بیان کیا جائے گا، اگر وہ توبہ کر لے تو ٹھیک ورنہ اسے قتل کر دیا جائے گا۔

اسی طرح اگر یہ کہ مجھے نماز کے بارے میں شک ہے کہ وہ واجب ہے یا نہیں؟ اور زکاۃ واجب ہے یا نہیں؟ اور ماہ رمضان کے روزوں کے بارے میں شک ہے کہ وہ واجب ہے یا نہیں؟ یا استطاعت کے باوجود حج کے بارے میں شک کرے کہ کیا وہ عمر میں ایک مرتبہ واجب ہے یا نہیں؟ تو یہ تمام شکوہ کفر اکابر ہیں، ان کے مرتكب سے توبہ کرائی جائے گی اگر توبہ کر لے اور ایمان لے آئے تو ٹھیک ورنہ اسے قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے:

”مَنْ بَدَلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ“.

جو اپنادین تبدیل کر لے اسے قتل کر دو۔

اسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے (۱)۔

(۱) حدیث (۳۰۱۷)۔

ہے، تو یہ تمام چیزیں عقیدہ کو مضمحل کرنے کا سبب ہیں، البتہ اگر میلاد کے اس جشن میں رسول کریم ﷺ سے فریاد کی جائے تو یہ بدعت کی پہلی قسم میں سے یعنی دین اسلام سے خارج کرنے والی ہوگی۔

نیز اسی طرح دوسری قسم میں سے بدشگونی لینا بھی ہے جیسے زمانہ جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے، اللہ عزوجل نے ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا:
 ﴿قَالُوا إِطِيرْنَا بَكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
 بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَفْتَنُونَ﴾ (۱)۔

انھوں نے کہا ہم تو تیری اور تیرے ساتھیوں کی بدشگونی لے رہے ہیں، آپ نے فرمایا: تمہاری بدشگونی اللہ کے یہاں ہے، بلکہ تم فتنے میں پڑے ہوئے لوگ ہو۔

چنانچہ بدشگونی کفر سے کمتر شرک ہے...، اسی طرح اسراء و معراج کی شب میں جشن منانا، نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(۱) سورۃ انمل: ۲۷۔

۱-شیطان سے اللہ عزوجل کی پناہ مانگے (۱)۔

۲-نفس میں پیدا ہونے والی چیزوں سے باز رہے (۲)۔

۳-کہہ: میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لا یا (۳)۔

دوسری قسم: دائرہ کفر میں نہ داخل کرنے والی برائیاں

یہ چیزیں ایمان کو کمزور اور اس میں نقص پیدا کرتی ہیں نیز اس کے مرتكب کو جہنم اور اللہ کے غیظ و غضب کا مستحق بناتی ہیں، لیکن ان کا مرتكب کافر نہیں ہوتا ہے، جیسے سودخوری اور دیگر حرام امور کا ارتکاب مثلًا زنا کاری اور بدعات وغیرہ، بشرطیکہ اس کا ایمان ہو کہ وہ حرام ہے، اسے حلال نہ سمجھے اور اگر یہ عقیدہ ہو کہ ایسا کرنا حلال ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، اس کے علاوہ اور دیگر اعمال جیسے نبی کریم ﷺ کی ولادت کی مناسبت سے جشن منانا، یہ ایک بدعت ہے جسے چوتھی صدی ہجری اور اس کے بعد میں لوگوں نے ایجاد کیا

(۱) صحیح بخاری مع فتح الباری، ۲/۳۳۶ ص ۱۲۰۔

(۲) صحیح بخاری مع فتح الباری، ۲/۳۳۶ ص ۱۲۰۔

(۳) صحیح مسلم، ۱/۱۹۱ ص ۱۲۰۔

”من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد“ (۱)۔

جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جو اس میں سے
نہیں تو وہ چیز مردود ہے۔
گفتگو خصاراً ختم ہوئی (۲)۔

تیسرا باب:

اہل قبلہ کی تکفیر میں

لوگوں کے موافق اور ان کا جائزہ

☆ پہلی فصل: تکفیر کے باب میں لوگوں کے موافق۔

پہلا مبحث: خوارج کی رائے۔

دوسرा مبحث: معتزلہ کی رائے۔

تیسرا مبحث: شیعہ کی رائے۔

چوتھا مبحث: مرجحہ کی رائے۔

☆ دوسری فصل: گمراہ فرقوں (کے آراء) کا جائزہ۔

پہلا مبحث: خوارج کا جائزہ۔

دوسرा مبحث: معتزلہ کا جائزہ۔

تیسرا مبحث: شیعہ کا جائزہ۔

چوتھا مبحث: مرجحہ کا جائزہ۔

(۱) صحیح بخاری مع فتح الباری، ۵/۳۰۴ و صحیح مسلم، ۳/۱۳۷۳۔

(۲) القوادح فی العقیدہ، از علامہ ابن باز، یہ دراصل ایک تقریر ہے جسے آں موصوف نے
جامع کیہر میں ماہ صفر ۱۴۰۳ھ میں کی تھی، یہ تقریر میری پرشیل لائبریری میں رکارڈ شدہ موجود ہے،
الحمد للہ بعد میں یہ تقریر ۱۴۱۶ھ میں ”القواعد فی العقیدہ وسائل السلامۃ منحا“ (عقیدہ کی
خرابیاں اور ان سے بچنے کے طریقے) کے نام سے کتابچہ کی شکل میں شائع بھی ہوئی، اس کی
اشاعت اور مولف پر پیش کرنے کی ذمہ داری شیخ خالد بن عبد الرحمن شائع نے بھائی، اللہ انہیں
جزائے خیر سے نوازے۔

پہلی فصل: بتکفیر کے باب میں لوگوں کے موافق

پہلا مبحث: خوارج اور ان کی رائے۔

خوارج کو ”حروراء“ نامی ایک گاؤں کی طرف منسوب کرتے ہوئے جس سے وہ نکلے تھے ”حروریہ“ کہا جاتا ہے اور امام حنفی جس پر (مسلمانوں کی) جماعت متفق ہو کے خلاف بغاوت کرنے والے ہر شخص کو خارجی کہا جاتا ہے (۱)، خواہ بغاوت صحابہ کرام کے زمانہ میں انہمہ راشدین کے خلاف ہو یا ان کے بعد ان کے پچ تبعین کے خلاف، یا ہر زمانہ کے انہمہ کے خلاف ہو (۲)۔ اور جب خوارج میں اختلاف ہوا تو وہ میں فرقوں میں تقسیم

(۱) جب گنہ گار مسلمانوں کی عکیفیت کرے، تفصیل کے لئے اس کتاب کا ص (۵۸) ملاحظہ فرمائیں۔

(۲) املل و انخل للشہرستانی، ۱۴۳۷ھ، انہوں نے تمام فرقوں اور ہر فرقہ کا مذہب و عقیدہ ذکر کیا ہے۔

سنّت کی مخالفت کر دے تو اس کے خلاف بغاوت کرنا واجبی حق سمجھتے ہیں (۱)۔

خوارج اپنے مذهب کے اختلاف کے باوجود علی، عثمان، اہل جمل، دونوں حکم اور جو تکمیم سے راضی ہوا اور جو دونوں حکم یاد دونوں میں سے ایک کو درست قرار دے اس کی تکفیر اور ظالم حاکم کے خلاف بغاوت کے وجوب پر متفق ہیں... اور کعی نے جوان کے کبیرہ گناہوں کے مرتكبین کی تکفیر پر اجماع کی بات نقل کی ہے وہ غیر مقبول ہے، صحیح بات وہ ہے جو ابو الحسن نے نقل کی ہے کعی نے مرتكبین کبائر کی تکفیر پر خوارج کے اجماع کے دعویٰ میں غلطی کی ہے کیونکہ خوارج میں سے فرقہ نجدات اپنے موافقین میں سے اہل حدود کی تکفیر نہیں کرتا بلکہ وہ کہتا ہے کہ ان کے موافقین میں سے کبیرہ کا مرتكب، کافر دین نہیں بلکہ کافرنگت ہے (۲)۔

عبد القاهر بن طاہر تمییزی بغدادی فرماتے ہیں: ”قدیم مُحَمَّدٌ عَلَى عَثَمَانَ طَلَحَ“

(۱) اسلسل وائل للشہرستانی، ۱/۱۱۵۔

(۲) الفرق بین الفرق، ص ۲۷۳۔

ہو گئے (۱) ان میں سے بڑے فرقے مُحَمَّدٌ از ارقة، نجدات، بہیسیہ، عجارة، شعالبہ، اباضیہ اور صفریہ وغیرہ ہیں اور بقیہ ان کی فرع ہیں جن کا متفقہ عقیدہ عثمان و علی رضی اللہ عنہما سے براءت کا اظہار ہے، جسے وہ ہر طاعت پر مقدم رکھتے ہیں اور اسی بنیاد پر شادی بیاہ کو صحیح قرار دیتے ہیں، اور کبیرہ گناہوں کے مرتكبین کو کافر سمجھتے ہیں (۲)، ان کے خون و مال کو حلال سمجھتے ہیں اور گندگاروں کے ہمیشہ ہمیشہ واصل جہنم رہنے کے قائل ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ سنّت جو قرآن کے ظاہر کے خلاف ہے خواہ متواتر ہی کیوں نہ ہو کوچھوڑ کر صرف قرآن کریم کی اتباع کی جائے گی، نیز وہ اپنے مخالفین کو کافر گردانتے ہیں اور اس کا وہ سب کچھ حلال سمجھتے ہیں جو اصلی کافر کا بھی نہیں سمجھتے (کیونکہ ان کے نزدیک وہ مرتد ہے) (۳)، اور امیر مسلم اگر

(۱) الفرق بین الفرق، عبد القاهر بن طاہر الغدادی، ص ۲۲۳، انہوں نے بھی فرقوں کے نام ذکر کئے ہیں، ص ۲۲۳۔

(۲) اسلسل وائل لابی افتخار بن عبد الکریم الشہرستانی، ۱/۱۱۵۔

(۳) فتاویٰ ابن تیمیہ، ۳/۳۳۵، نیز دیکھئے: الاجوبۃ المفیدہ علی استاذ العقیدہ للخطیلی، ص ۲۵۸۔

مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا خواہ وہ اللہ کی تو حید اور رسول اللہ ﷺ کی تبلیغ کا اقرار کرتا ہو، اور خواہ وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، زکاۃ ادا کرتا ہو، حج کرتا ہو، جہاد کرتا ہو، وہ ابليس، اس کے لشکر، فرعون، ہامان اور قارون کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا (۱)۔

انھوں نے قرآنی آیات کی تفسیر اس انداز میں کی ہے کہ جس سے کبائر کے مرتكبین کی تکفیر کے سلسلہ میں ان کے قول کی تائید ہو سکے، جیسے فرمان باری:

﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبَطَ عَمَلَهُ﴾ (۲)۔

اور جو ایمان سے کفر کرے اس کا عمل ضائع ہو گیا۔

نیز اللہ کا فرمان:

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ﴾ (۳)۔
اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے، تو تم میں سے کچھ کافر ہیں اور کچھ مؤمن۔

(۱) معارج القبول بشرح سلم الوصول الى علم الاصول في التوحيد، ۲۲۰/۲۔

(۲) سورۃ المائدۃ: ۵۔

(۳) سورۃ البیان: ۲۔

زیبر، و عائشہ رضی اللہ عنہم، اصحاب جمل، معاویہ رضی اللہ عنہ، دونوں حکم اور اس امت کے گنہ گاروں کی تکفیر کے قائل تھے، اور معاملہ اسی حد تک تھا یہاں تک کہ ان میں سے ازارق کا ظہور ہوا، ان کا عقیدہ تھا کہ ان کے مخالفین اور اسی طرح موافقین میں سے کبائر کے مرتكبین مشرک ہیں، اور وہ اپنے مخالفین میں سے عورتوں اور بچوں کے قتل کو حلال نیز انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے مستحق جہنم سمجھتے تھے (۱)۔

خوارج اور معتزلہ وغیرہ نے کفر اور فتنہ اصغر کے جن نصوص کو اپنا کر ان سے کفر اکابر پر استدلال کیا ہے وہ ان کے فاسد عقول، دوراز کاراذ بان اور (حق کی قبولیت سے) بندلوں کی اچھی اور پیداوار ہے، انھوں نے وحی کے نصوص کو باہم دے مارا اور فتنہ اور تاویل کی غرض سے اس میں سے تشابہ (غیر واضح) کی اتباع کرتے ہیں، خوارج کہتے ہیں کہ کسی گناہ کبیرہ مثلًا زنا یا شراب نوشی یا سود خواری پر اصرار کرنے والا کافر، مرتد اور دین اسلام سے بالکلیہ خارج ہو جاتا ہے، نہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور نہ ہی اسے

(۱) اصول الدین لابی منصور عبدالقاهر بن طاہر الجند ادی، ص ۳۳۶۔

ان کی تردید ان شاء اللہ آراء کے تجزیہ و مناقشہ کے فصل میں آئے گی (۱)۔

دوسرا بحث: معتزلہ اور ان کی رائے۔

رہے حق سے منحرف قدریہ (معزلہ) تو یہ بیس فرقوں میں تقسیم ہیں جن میں سے ہر فرقہ اپنے علاوہ تمام فرقوں کی تکفیر کرتا ہے، بعض چیزیں ان میں متفق علیہ ہیں، ان میں سے ان کا اس دعویٰ پر اتفاق بھی ہے کہ امت مسلمہ کا فاسق شخص دور جوں کے درمیانی درجہ میں ہوتا ہے (۲)۔

معزلہ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ایک شخص حسن بصری رحمہ اللہ (۳) کے پاس آیا اور اس نے کہا: اے دین کے امام! ہمارے زمانہ میں ایک ایسی جماعت

(۱) دیکھئے: ص (۲۵۵)۔

(۲) الفرق بین الفرق، ص ۲۲، فرقوں کے نام ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”واصلیہ، عمرویہ، ہذیہ، نظامیہ، مرداریہ، عمریہ، بشیریہ، شاما میہ، جاظبیہ، اسواریہ، اسکافیہ، جعفریہ، خیاطیہ، شحاميہ، ہشامیہ، اصحاب صالح قبہ، مریسیہ، کعبیہ، جباریہ اور ابوہاشم بن الجبائی کی طرف منسوب بہشمیہ“، الفرق بین الفرق، ص ۱۱۳، نیز دیکھئے: المثل و الخلل للشہرستانی، ۱/۸۵ تا ۱۱۳۔

(۳) حسن بصری رحمہ اللہ کی وفات سنہ ۱۱۰ ہجری میں ہوئی۔

چنانچہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کفر اور ایمان کے مابین کوئی تیسرہ درمیانی درجہ و منزلہ نہیں بنایا ہے، لہذا جس نے کفر کیا اس کا عمل ضائع ہو گیا اور وہ مشرک ہے، اور ایمان رأس العمل اور اولین فرض ہے... اور جس نے اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا اس کا عمل اور ایمان ضائع ہو گیا، اور جس کا عمل ضائع ہو گیا وہ بے ایمان ہے، اور جس کے پاس ایمان نہیں وہ مشرک اور کافر ہے (۱)۔

خوارج کی دلیلوں میں سے نبی کریم ﷺ کا یہ فرمان بھی ہے:

”لَا يَزِنِي الزَّانِي حِينَ يَزِنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقِ
السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرِبَ الْخَمْرُ
حِينَ يَشْرِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ“ (۲)۔

زنا کار زنا کاری کے وقت مومن نہیں رہتا، چور چوری کے وقت مومن نہیں رہتا اور شراب خور شراب خوری کے وقت مومن نہیں رہتا۔

(۱) الخوارج - الاصول المتأرخة لمسنونة تکفیر المسلم، ص ۳۰۔

(۲) صحیح مسلم، ۱/۲۶۔

سمجھانے اور اس کی مزید وضاحت کرنے لگا، تو حسن رحمہ اللہ نے فرمایا:
 ”اعتلنا و اصل“ واصل ہم سے الگ ہو گیا، چنانچہ وہ اور اس کے تبعین
 ”معزلہ“ کے نام سے موسوم ہوئے (۱)۔

یہ لوگ صفات باری کے منکر ہیں، کہتے ہیں وہ (اللہ) اپنے آپ عالم
 اپنے آپ قادر اور اپنے آپ زندہ ہے... اخ، آخرت میں گنہ گاروں کے
 حکم کے بارے میں ان کا مذہب خوارج کے مذہب کے موافق ہے، اور وہ
 ہے گنہ گاروں کے جہنم میں ہمیشہ رہنے کا، رہا دنیا میں تو وہ خوارج کی
 طرح فاسقوں کا خون و مال حلال نہیں سمجھتے، لیکن وہ گنہ گاروں کو ایمان سے
 خارج کرنے میں خوارج کے موافق اور ان کے کفر میں داخل ہونے میں
 ان کے مخالف ہیں، چنانچہ معزلہ کہتے ہیں کہ وہ ایمان سے خارج ہو گئے
 لیکن کفر میں داخل نہ ہوئے، لہذا وہ دونزوں کے مابین ایک (تیرے)
 منزلہ میں ہیں۔

رہے خوارج تو وہ گناہ کبیرہ کی بنیاد پر فاسقوں کو ایمان سے خارج کر کے

(۱) الملل و اخل للشہر ستانی، ۱/۲۸۶۔

کاظہور ہوا ہے جو کبائر کے مرتبین کو کافر کہتی ہے، اور کبیرہ اس کے نزدیک
 ایسا کفر ہے جو ملت سے خارج کر دیتا ہے۔ یہ خوارج میں سے فرقہ وعیدیہ
 ہے۔ اور ایک ایسی جماعت ظاہر ہوئی ہے جو کبیرہ کے مرتبین کو امید دلاتی
 ہے اور گناہ کبیرہ اس کے نزدیک کچھ بھی نقصان نہیں پہنچاتا، بلکہ اس کے
 عقیدہ و مذہب کے مطابق عمل ایمان کے اركان میں سے نہیں ہے، اور جس
 طرح کفر کے ساتھ اطاعت (نیکی) فائدہ نہیں پہنچاتی اسی طرح ایمان کے
 ساتھ کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچاتا۔ یہ امت کی وہ جماعت ہے جو ”ارجاء“
 یعنی عمل کو ایمان سے خارج کرنے کی قائل ہے۔ تو آپ ہمیں اس بارے
 میں کس عقیدہ کی رہنمائی کرتے ہیں؟

حسن بصری رحمہ اللہ نے اس بارے میں غور کیا لیکن جواب دینے سے
 پہلے ہی واصل بن عطاء نے کہا: کبیرہ کا مرتب نہ مطلق مومن ہے اور نہ ہی
 مطلق کافر، بلکہ وہ دونوں مقامات کے درمیان ایک تیرے مقام میں ہے نہ
 مومن ہے اور نہ کافر، پھر کھڑا ہوا اور مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون
 کے پاس الگ تھلگ ہو کر حسن کے شاگردوں کی ایک جماعت کو اپنا جواب

عزوجل کا یہ فرمان بھی ہے:

﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنْتُمْ
حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ وَرَّحِيمٌ﴾ (۱)

تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس سے
ہیں جن کو تمہاری مضرت کی بات نہایت گراں گزرتی ہے جو تمہاری
منفعت کے خواہشمندر ہتے ہیں، ایمان والوں کے ساتھ بڑے ہی
شفیق اور مہربان ہیں۔

چنانچہ- قاضی عبدالجبار کے تصریح کے مطابق- رسول اللہ ﷺ کے لئے
جاائز نہیں کہ وہ کبائر کے مرتبین میں سے جن پر حد قائم کریں اور لعنت کریں،
ان پر مہربان اور حرم کرنے والے ہوں، اسی طرح معتزلہ چند احادیث سے
بھی استدلال کرتے ہیں، ان میں سے بنی کریم ﷺ کا یہ فرمان بھی ہے:

”لَا يَزِنِي الزَّانِي حِينَ يَزِنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقِ
السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرُبِ الْخَمْرَ

(۱) سورۃ التوبۃ: ۱۲۸۔

انہیں کفر میں داخل کر دیتے ہیں (۱)، جبکہ معتزلہ کہتے ہیں کہ گنہ گار لوگ نہ
مومن ہیں اور نہ ہی کافر بلکہ ہم انہیں فاسق کہتے ہیں، چنانچہ انہوں نے فتنہ کو
(کفر و ایمان) دونوں منزلوں کے درمیان ایک منزلہ قرار دیا، لیکن (دنیا کی
طرح) آخرت میں دونہ منزلوں کے درمیان ایک منزلہ کا فیصلہ نہ کیا بلکہ خوارج
کی طرح ہمیشہ ہمیشہ کے لئے مستحق جہنم قرار دیا، خلاصہ کلام یہ کہ انہوں نے
زبانی طور پر ان کی مخالفت کی اور حقیقت میں ان کی موافقت اور سب کے
سب خطاكارا اور گمراہ قرار پائے (۲)۔

معزلہ کے عقیدہ کا خلاصہ یہ ہے کہ کبیرہ کا مرتبہ درمیانیں دونہ منزلوں کے
درمیان ایک منزلہ میں ہوگا جبکہ اگر تو بہ نہ کرے تو قیامت کے روز ہمیشہ ہمیشہ
کے لئے مستحق جہنم ہوگا (۳)۔

مرتبہ کبیرہ کے مومن نہ ہونے کی بابت معتزلہ کی دلیلوں میں سے اللہ

(۱) الاجبة المفید علی اسنات العقیدہ للجھنیلی، ص ۹۵، وشرح عقیدہ طحا ویہ، ص ۳۵۶۔

(۲) معراج القبول بشرح سلم الوصول فی التوحید، ۲/۴۲۱۔

(۳) موقف المعتزل من السنة النبوية وماطن آخر فهم عنها، ص ۹۹، ۱۳۰، ۱۳۹ / وان ایڈیشن، دار

حین یشربها وہو مؤمن“ (۱)۔

زنا کار زنا کاری کے وقت مومن نہیں رہتا، چور چوری کے وقت مومن نہیں رہتا اور شراب خور شراب خوری کے وقت مومن نہیں رہتا۔

نیز یہ فرمان:

”لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له“ (۲)۔

بے ایمان ہے وہ شخص جس کے پاس امانت نہیں، اور بے دین ہے وہ شخص جس کے پاس عہدو پیان نہیں۔

رہیں گلنے گاروں کے ہمیشہ ہمیش کے لئے مستحق عذاب جہنم ہونے کے بارے میں معتزلہ کی دلیلیں تو ان میں سے رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان ہے:

(۱) صحیح مسلم، ۱/۷۴۔

(۲) مندرجہ، ۳/۱۳۵، علامہ البانی نے اسے صحیح الجامع (۶/۱۲۳، حدیث ۷۰۵۶) میں صحیح قرار دیا ہے۔

”من قتل نفسه بـحدیدۃ فـحدیدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً، ومن شرب سما فـقتل نفسه فهو يـتحـسـاه في نار جهنـم، خالداً خـلـداً فيها أبداً، ومن تردى من جبل فـقتل نفسه فهو يتـرـدـي في نار جهنـم خالداً مخلداً فيها أبداً“ (۱)۔

جس نے کسی لو ہے کے ذریعہ خود کشی کی اس کا لوہا اس کے ہاتھ میں ہو گا جسے وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیش اپنے پیٹ میں گھونٹا رہے گا اور جس نے زہر پی کر خود کشی کی وہ اسے جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیش گھونٹا رہے گا، اور جس نے پہاڑ سے کوکر خود کشی کی وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیش کو دتارہے گا۔

نیز فرمان نبوی ﷺ:

”يـدخلـ أـهـلـ الـجـنـةـ، وـيـدـخـلـ أـهـلـ النـارـ النـارـ، ثـمـ يـقـوـمـ مـؤـذـنـ بـيـنـهـمـ فـيـقـوـلـ: يـأـهـلـ الـجـنـةـ لـاـ مـوـتـ، وـيـأـهـلـ

(۱) صحیح بخاری مع فتح الباری، ۳/۲۲۶ و صحیح مسلم، ۱/۱۰۲۔

یہ (شیعہ) وہ ہیں جو خصوصی طور پر علی رضی اللہ عنہ سے محبت اور دوستی کا دم بھرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ اور ان کے بعد ان کی اولاد رسول اللہ ﷺ کے بعد لوگوں میں سب سے فضل اور امامت کے سب سے زیادہ مستحق تھے^(۱)، نیز نص اور وصیت دونوں اعتبار سے ان (علی رضی اللہ عنہ) کی امامت و خلافت کے قائل ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ امامت اب ان کی اولاد سے خارج نہیں ہو سکتی، اور اگر خارج ہوئی تو یا تو غیروں کے ظلم کی

== ”الفرق بين الفرق“، (ص ۲۱) میں فرماتے ہیں: ”جہاں تک راضھے کی بات ہے تو ان میں سے سبھی نے علی رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں اپنی بدعت ظاہر کی، چنانچہ بعض لوگوں نے علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا کہ ”آپ اللہ (اللہ) ہیں“، تو علی رضی اللہ عنہ نے ان میں سے ایک جماعت کو نذر آتش دیا اور ابن سبائ کو مدائن کی چھاؤنی کی طرف جلاوطن کر دیا، یہ فرقہ علی رضی اللہ عنہ کی الوہیت کا عقیدہ رکھنے کے سبب امت اسلامیہ کے فرقوں سے خارج ہے۔ پھر علی رضی اللہ عنہ کے زمانہ کے بعد روافض کی چار قسمیں ہو گئیں: زیدیہ، امامیہ، کیسانیہ اور غلاۃ (غلوپسند) اور پھر زیدیہ، امامیہ اور غلاۃ کئی فرقوں میں تقسیم ہو گئے، ان میں سے ہر فرقہ بقیہ تمام فرقوں کو کافر سمجھتا ہے، غلاۃ کے تمام فرقے اسلام کے فرقوں سے خارج ہیں، البتہ زیدیہ اور امامیہ کے فرقے امت کے فرقوں میں شمار ہوتے ہیں۔^(۲)

(۱) الفصل في الملل والآراء والخلال لابن حزم، ۲/ ۳۳۶، والممل والخلل للشہرتانی، ۱/ ۱۳۶۔

النار لاموت، کل خالد فيما هو فيه“^(۱)۔

جنतی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، پھر ایک آواز لگانے والا کہے گا: اے جنتیو! اب موت نہیں آنی ہے، اے دوزخیو! اب موت نہیں آنی ہے، سب کے سب جس (نعمت و عذاب) میں ہیں اسی میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔

معزلہ کے عقیدہ کی تردید انشاء اللہ ان کے اور دیگر فرقوں کے عقائد کے مناقشہ کی فصل میں آئے گی^(۲)۔

تیسرا بحث: شیعہ اور ان کی رائے۔

یہ پانچ فرقے ہیں: کیسانیہ، زیدیہ، امامیہ، غالیہ (غلوپسند) اور اسما علیہ، ان میں سے بعض فرقے اصول میں اعتزال، بعض سنت اور بعض تشییہ کی طرف مائل ہیں^(۳)۔

(۱) صحیح بخاری مع فتح الباری، ۱/ ۳۰۶، و صحیح مسلم، ۲/ ۲۱۹۸۔

(۲) دیکھئے: ص (۲۶۷)۔

(۳) المثل والخلل للشہرتانی، ۱/ ۱۳۶، اور علامہ بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب =

جور رسول اللہ ﷺ کے تینوں خلفاء راشدین سے بغض نہ رکھے وہ ان کے
نzd کیک شیعی یعنی علی رضی اللہ عنہ سے محبت رکھنے والا نہیں ہے۔

شیعہ مذہب کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ نبی کریم ﷺ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کی
شان میں طعنہ جوئی کرتے ہیں، ان کی کتابوں سے چند مثالیں ملاحظہ ہوں:
۱- ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں طعنہ زنی:

کشی نے زرارہ بن اعین سے بواسطہ ابو جعفر روایت کیا ہے کہ محمد بن
ابو بکر رضی اللہ عنہما نے علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اپنے والد (ابو بکر رضی اللہ
عنہ) سے براءت کرنے پر بیعت کی (۱)، اور وہ شیعہ ہی تھے جنہوں نے
زید بن علی بن حسین سے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں پوچھا اور
انہوں نے ان دونوں کی تعریف و توصیف کی، تو انہوں نے انکا کر دیا اور
”رافضہ“ کہلاتے گئے، یہ لوگ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں اور ان پر لعنت
کرتے ہیں، اور بعض لوگ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بارے میں غلو
سے کام لیتے ہیں (۲)۔

(۱) الشیعہ والسنہ، ص ۳۲۔

(۲) الاجوبۃ المفیدۃ علی اسلۃ العقیدۃ، ص ۵۹۔

وجہ سے یا ان کے ذاتی تقیہ (تنازل) کے سبب، اور کہتے ہیں کہ: امامت کوئی
مصلحتی قضیہ نہیں ہے جسے عوام کے انتخاب سے حاصل کیا جائے اور ان کے
قامم کرنے سے امام برسر امامت آئے بلکہ یہ اصولی قضیہ ہے جو دین کا رکن
ہے، رسول اللہ ﷺ کے لئے اس سے غفلت برنا، نظر انداز کرنا اور عوام کو
سو نپا جائز نہیں... تمام فرقے تعین و تنصیص کے وجوہ، ائمہ کے واجبی طور
پر کبار و صغائر سے معصوم ہونے کے ثبوت، قوی، عملی اور اعتقادی طور پر
ولایت و براءت کے قول پر متفق ہیں سوائے تقیہ کی حالت کے صرف بعض
زیدیہ ان کے مخالف ہیں (۱)۔

مذہب شیعہ کا آغاز شیعوں کے خبیث لیڈر عبد اللہ بن سبا یہودی کے
ہاتھ پر ہوا، جو اسلام ظاہر کرتا تھا حالانکہ وہ دشمن اسلام منافق تھا، یہ پہلا
شخص تھا جس نے ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور داما در رسول عثمان ذوالنورین
رضی اللہ عنہم کے بارے میں طعن ظاہر کیا اور اس وقت سے آج تک بدستور
شیعہ اسی عقیدہ پر گامزن اور اسے دل و جان سے لگائے ہوئے ہیں، چنانچہ

(۱) الملل و اخیل للشہرستانی، ۱/۴۶۰۔

۲- عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان میں طعنہ زنی:

عمر رضی اللہ عنہ کی شان میں شیعوں کی طعنہ زنی پر ابن بالویہ عینی شیعی کی وہ روایت دلالت کرتی ہے جسے اس نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر جھوٹ وضع کی ہے، کہتا ہے: جب آپ کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے کہا: میں تین باتوں سے اللہ کی طرف تائب ہوں: میرا اس معاملہ کا غصب کر لینا (یعنی میرا اور ابو بکر رضی اللہ عنہما کا - نعوذ باللہ - لوگوں سے خلافت غصب کر لینا)، ابو بکر کا ان پر خلیفہ مقرر ہونا اور بعض مسلمانوں کو بعض پروفیت و فضیلت دینا۔ اور علی بن ابراہیمؑ تھی جو شیعہ کے نزدیک حدیث میں شفہ قابل اعتماد اور صحیح المذہب ہے اپنی تفسیر میں (درج ذیل) فرمان باری کے تحت لکھتا ہے:

﴿وَيَوْمَ يَعْصِيُ الظَّالِمُونَ إِذْ يُدْعَىٰ إِلَيْهِ يَقُولُ يَأْتِيَنِيَ الرَّسُولُ سَبِيلًا﴾ (۱)۔

اور جس دن ظالم یہ کہہ کر اپنے ہاتھوں کو چبائے گا کہ اے کاش

(۱) سورۃ الفرقان: ۲۷۔

میں نے رسول کا راستہ اپنایا ہوتا۔
ابو جعفر کہتا ہے: پہلا شخص (یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ) کہے گا: اے کاش میں نے رسول کے ساتھ علی کو بھی دوست بنایا ہوتا اور اے کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا (یعنی دوسرا شخص (عمر رضی اللہ عنہ) کو)۔
کلینی نے ابو عبد اللہ سے درج ذیل فرمان باری (کی تفسیر) میں روایت کیا ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنَ اللَّهُ لِيغْفِرُ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيهِمْ سَبِيلًا﴾ (۲)۔

جو لوگ ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر کفر میں حد سے بڑھ گئے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بخششے والا نہیں ہے اور نہ ہی

(۱) الشیعہ والسد، ص ۳۲، ۳۵، ۳۶، اور اس کے علاوہ بھی کئی تاویلات کا ذکر کیا ہے، ہم اللہ سے عائیت کے خواستگار ہیں۔

(۲) سورۃ النساء: ۱۳۷۔

انہیں کسی راستے کی رہنمائی کرے گا۔

آیت کریمہ فلاں کے بارے میں نازل ہوئی... جنہوں نے شروع میں نبی کریم ﷺ پر ایمان قبول کیا اور جب ان پر ولایت پیش کی گئی تو کفر کیا (انکار کر دیا) جب اللہ نے نبی کریم ﷺ سے فرمایا: جس کا میں مولیٰ ہوں علیٰ بھی اس کے مولیٰ و مددگار ہیں، پھر امیر المؤمنین کی بیعت پر ایمان لائے اور پھر بعد میں جب رسول اللہ ﷺ نے فیصلہ کر دیا تو کفر کیا اور بیعت کا اقرار نہ کیا، پھر جنہوں نے امیر المؤمنین کے ہاتھ پر بیعت کی تھی ان سے اپنی بیعت لیکر مزید کفر کیا، چنانچہ یہ وہ لوگ ہیں جن میں ذرا بھی ایمان نہیں!، اور شارح کافی نے بیان کیا ہے کہ فلاں فلاں ... سے مراد حضرات ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم ہیں، یہ جھوٹے ہیں اللہ انہیں غارت کرے!

۳- نبی کریم ﷺ کے باقیہ صحابہ کرام اور ازواج مطہرات امہات المؤمنین کی شانوں میں طعنہ زنی:

شیعوں نے رسول اللہ ﷺ کے رشتہ داروں ہی کی شان میں طعنہ زنی

اور انگشت نمائی پر اکتفا نہ کیا بلکہ آپ کے پا کیزہ آل بیت اور بڑے رفقاء بالخصوص جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور کما حقہ جہاد کیا اور اللہ کے پسندیدہ دین کی نشر و اشاعت کی، ان کی قابل قدر کوششوں سے حسد اور بغرض وکیلہ رکھتے ہوئے ان کی عزت و ناموس اور شان میں گستاخیاں اور ہرزہ سرائیاں کیں، چنانچہ یہ نبی کریم ﷺ کے چچا عباس رضی اللہ عنہ... ان کے صاحبزادے حبر امت اور ترجمان القرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو گالیاں دیتے ہیں... اور سیف اللہ خالد بن ولید، عبداللہ بن عمر اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہم کی شانوں میں طعنہ زنی کرتے ہیں، اسی طرح طلحہ وزیر رضی اللہ عنہما کی شان میں طعنہ زنی کرتے ہیں جو ان دس خوش نصیبوں میں سے ہیں جنہیں جنت کی بشارت دی گئی ہے اور نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے:

”أوجب طلحة“ (۱)

طلحہ نے واجب کر لی (یعنی جنت واجب کر لی)۔

اور زبیر کے بارے میں فرمایا:

(۱) مسنداً إمامِ أحمد، ۱/۱۶۵، و جامِع ترمذی، ۵/۲۰۱۔

تمام لوگ (صحابہ کرام) نبی کریم سے مرتد ہو گئے تھے، تو میں نے کہا: وہ تین کون ہیں؟ اس نے کہا: مقداد بن اسود، ابوذر غفاری اور سلمان فارسی (رضی اللہ عنہم)، اور یہ اللہ کے درج ذیل فرمان میں ہے:

﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ﴾ (۱)۔

محمد ﷺ صرف رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول ہو چکے ہیں، کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا یہ شہید ہو جائیں تو تم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پٹ جاؤ گے؟

اور ابو جعفر ہی سے مروی ہے کہتا ہے: مہاجرین و انصار سب گئے (یعنی نمود باللہ۔ سب مرتد ہو گئے) سوائے... (اپنی انگلی سے اشارہ کیا کہ) تین کے (۲)۔ اللہ تعالیٰ خالموں کی باتوں اور اللہ کی آیات میں ان کی تحریف اور اس کے ذریعہ اللہ کے اولیاء کی تکفیر پر استدلال کے کذب و افتراء سے بہت بالاتر ہے،

(۱) سورۃ آل عمران: ۱۳۳۔

(۲) الشیعہ والسن (باختصار شدید قدرے لصرف کے ساتھ) ص ۵۰ تا ۲۹۔

”إن لكلنبي حواريا و حواري النبير“ (۱)۔

بیشک ہر نبی کا کوئی حواری (ملخص مددگار) ہوتا ہے اور میرے حواری زیر ہیں۔

اسی طرح انس بن مالک، براء بن عاذب، ازواج مطہرات اور خاص طور پر ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہم کی شان میں طعنہ زنی کرتے ہیں جن کی براءت کا اعلان ساتوں آسمانوں کے اوپر سے ہوا ہے، اور پھر اخیر میں تمام صحابہ کرام کو کافر قرار دیتے ہیں۔

اس جماعت کا اول تا آخر یہی عقیدہ ہے جیسا کہ یہودیوں نے ان کے لئے ترتیب دیا ہے، یہاں تک کہ ان کا دین گالی گلوچ، سب و شتم اور بدزبانی کا دین بن گیا ہے، لیکن انہوں نے صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت پر سب و شتم کرنے پر اکتفانہ کیا بلکہ انہیں تباہی یہاں تک لے گئی کہ انہوں نے چند معدودے کو چھوڑ کر بقیہ تمام صحابہ کرام کو کافر قرار دیا، چنانچہ یہ کشی جوان کا ایک سراغنہ ہے ابو جعفر سے روایت کرتا ہے کہ اس نے کہا: تین کے علاوہ بقیہ

(۱) متفق علیہ: صحیح بخاری مع فتح الباری، ۶/۵۲ و صحیح مسلم، ۹/۱۸۷۹۔

صحابہ کرام اللہ کے وہ اولیا تھے جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبِّهِ﴾ (۱)۔

اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اس سے راضی ہوئے، یہ ہے اس کے لئے جو اپنے پروگار سے ڈرے۔
نیز ارشاد ہے:

﴿وَالسَّابِقُونَ الْأُولُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِالْحَسَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعْدَدْ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (۲)۔

اور جو مہاجرین اور انصار سابق اور مقدم ہیں اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیرو ہیں اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب

(۱) سورۃ البینۃ: ۸۔

(۲) سورۃ التوبہ: ۱۰۰۔

اس سے راضی ہوئے اور اللہ نے ان کے لئے ایسے باغِ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی جن میں (وہ) ہمیشہ رہیں گے یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔

رافضہ کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے علی رضی اللہ عنہ (کی امامت) پر قطعی نص ارشاد فرمائی ہے جس سے کوئی عذر باقی نہیں رہتا، اور یہ کہ وہ امام معصوم ہیں اور ان کا مخالف کافر ہے لیکن مہاجرین و انصار نے نص کو چھپایا، امام معصوم کا انکار کیا، نفسانی خواہشات کی اتباع کی، دین و شریعت کو بدلا اور ظلم و زیادتی کی بلکہ سوائے چند کے سب کافر ہو گئے۔

اور ان میں سے اکثر اپنے مخالفین کی تغیری کرتے ہیں، اپنے آپ کو مومن اور اپنے مخالفین کو کافر کہتے ہیں، اور ان اسلامی شہروں کو جہاں ان کی بات کا کوئی ذکر و مقام نہیں ہوتا انہیں جائے ارتداد اور مشرکین و انصاری کے شہروں سے بھی بدتر قرار دیتے ہیں، اور اسی لئے بعض جمہور (عام) مسلمانوں کے خلاف یہود و انصاری اور مشرکین سے محبت رکھتے ہیں... اور انہیں میں سے نفاق اور زندیقت کے بڑے بڑے فرقے وجود پذیر ہوئے، جیسے زندقة

یعنی مہلت دواور موخر کر دو۔

۲- دوسرا معنی امید دلانے کے ہیں۔

فرقہ مرجحہ پر اس نام کا اطلاق پہلے معنی کے اعتبار سے تو صحیح ہے کیونکہ وہ عمل کو نیت اور عقیدہ سے دور کرتے ہیں، یعنی عمل کو ایمان کے مسمی سے خارج کر دیتے ہیں۔ رہا دوسرا معنی تو وہ ظاہر ہے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ جس طرح کفر کے ساتھ نیکی فائدہ نہیں پہنچاتی ہے اسی طرح ایمان کے ساتھ گناہ بھی نقصان نہیں پہنچاتا ہے (۱)۔

مرجحہ چار طرح کے ہیں: مرجحہ خوارج، مرجحہ قدریہ، مرجحہ جبریہ اور خالص مرجحہ، اور ان کے کئی فرقے ہیں (۲)۔

(۱) اسلام و اخلاق لشہرستانی، ۱/۱۳۹۔

(۲) اسلام و اخلاق لشہرستانی، ۱/۱۳۹۔ علامہ بغدادی رحمہ اللہ اپنی کتاب ”الفرق بین الفرق“ میں فرماتے ہیں: ”مرجحہ تین قسم کے ہیں: ایک قسم وہ ہے جو ایمان میں ارجاء اور قدریہ کے مذہب کے مطابق (انکار) قدر کے قائل ہیں اور دوسری قسم وہ ہے جو ایمان میں ارجاء اور جنم بن صفوان کے مذہب کے مطابق اعمال میں جر کے قائل ہیں، چنانچہ یہ فرقہ جہیہ مرجحہ میں سے ہیں، اور تیسرا قسم وہ ہے جو تقدیر کے انکار کے بغیر خالص مرجحہ ہیں، ان کے پانچ فرقے = =

قرامط، باطنیہ اور اس جیسے دیگر فرقے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ مبتدعہ میں سے کتاب و سنت سے سب سے زیادہ دور ہیں، یہی وجہ ہے کہ عوام میں یہ لوگ سنت کی مخالفت سے مشہور ہیں... چنانچہ عام مسلمان سنی کا ضد راضی (شیعہ) ہی کو سمجھتے ہیں، جب کوئی کہتا ہے کہ ”میں سنی ہوں“ تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میں ”راضی“ نہیں ہوں (۱)۔

ان شاء اللہ ان کی تردید مناقشہ کی فصل میں آئے گی (۲)۔

چوتھا مبحث: مرجحہ اور ان کی رائے۔

”ارجاء“ کے دو معنی ہیں:

۱- ایک معنی تاخیر ہے، جیسا کہ ارشاد باری ہے:

﴿فَالْوَأْرِجَهُ وَالْأَخَاهُ﴾ (۳)۔

انھوں نے کہا کہ آپ ان کو اور ان کے بھائی کو مہلت دید تھے۔

(۱) فتاویٰ شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ۳/۳۵۶۔

(۲) دیکھئے: ح (۲۷۴)۔

(۳) سورۃ الاعراف: ۱۱۱۔

کے نزدیک فاسق موحد کے ایمان اور ابو بکر و عمر کے ایمان کے مابین کوئی فرق (تفاضل) نہیں اور نہ ہی ان کے نزدیک مومنین و منافقین کے درمیان ہی کوئی فرق ہے، کیونکہ سب کے سب شہادتیں کا (زبانی) اقرار کرتے ہیں، ہم اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، چنانچہ یہ لوگ ایک طرف ہیں اور خوارج دوسری طرف (۱)۔

چنانچہ مرجمہ کہتے ہیں کہ ہم اہل قبلہ میں سے کسی کی تکفیر نہیں کرتے ہیں، اس طرح انہوں نے تکفیر کی عام نفی کی یہ جاننے کے باوجود کہ اہل قبلہ میں منافقین بھی ہیں، جن میں ایسے لوگ ہیں جو کتاب و سنت اور اجماع کا یہود و نصاریٰ سے بڑھ کر انکار کرنے والے ہیں اور ان میں وہ بھی ہیں جو ممکنہ حد تک اس (نفاق) کا اظہار بھی کرتے ہیں اور وہ بظاہر شہادتیں کے اقراری ہیں، اس میں مسلمانوں کے مابین کوئی اختلاف نہیں کہ آدمی اگر ظاہر و متواتر واجبات وغیرہ کا انکار ظاہر کرے تو اس سے توبہ کروائی جائے گی، اگر توبہ کر لے تو ٹھیک ورنہ اسے کافر و مرتد ہونے کے

(۱) معارج القبول، ۳۲۱/۲، والا جو پتہ المفید علی اسلسلۃ العقیدہ، ص ۵۸۔

مرجمہ ایک فرقہ ہے جو کہتا ہے کہ جس طرح کفر کے ساتھ نیکی نفع بخش نہیں ہوتی اسی طرح ایمان کے ساتھ گناہ کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، نیز کہتے ہیں کہ کوئی شخص کفر سے کتر گناہ کے سبب بالکلیہ جہنم میں داخل نہ ہوگا، اور ان

= = = ہیں: یونیس، غسانیہ، ثوابانیہ، تومانیہ اور مریسیہ، ان پانچوں فرقوں میں سے ہر فرقہ دوسرے فرقے کو گراہ قرار دیتا ہے اور بقیہ فرقے اس کی تحلیل کرتے ہیں، دیکھئے: الفرق بین الفرق، ص ۲۰۲۔ شہرستانی نے مزید دو فرقوں کا اضافہ کیا ہے: عبیدیہ اور صالحیہ، اس طرح خالص مرجمہ کے فرقوں کی تعداد سات ہو جاتی ہے، دیکھئے: الملل والملل للشہرستانی، ۱/۱۳۹۔

ربا وہ ارجاء جو مرجمہ فقہاء جیسے حاد بن سلمہ، ابوحنیفہ اور کوفہ کے دیگر ائمہ حبہم اللہ کی طرف منسوب ہے، یعنی ان کا یہ کہنا کہ ”اعمال ایمان میں داخل نہیں ہیں“، لیکن اس کے باوجود وہ اس بات میں اہل سنت کے موافق ہیں کہ اللہ تعالیٰ اہل کبار میں سے جسے چاہے گا جہنم کا عذاب دے گا پھر انہیں شفاعت وغیرہ کے ذریعہ اس سے نکالے گا، اور یہ کہ ایمان زبان سے کہنا (اقرار کرنا) ضروری ہے نیز یہ کہ فرض اعمال واجب ہیں ان کا تارک نہ ملت اور عذاب کا مستحق ہے، تو ارجاء کی قیم اعمال کو ایمان سے خارج کرنے کے سبب ایک باطل بدعا نہ بات ضرور ہے لیکن کفر نہیں ہے“، دیکھئے: فتاویٰ ابن تیمیہ، ۷/۲۹۷/۷، ۵۰۷/۷، وشرح عقیدۃ واطسیہ للہب اس، ص ۱۲۹، نیز دیکھئے: عقیدۃ طحا ویہ پرشیخ عبدالعزیز بن عبد اللہ بن باز کی تعلیق، ص ۲۰۱ تا ۱۹۱، چنانچہ فرماتے ہیں: ”عمل کو ایمان سے خارج کرنا مرجمہ کا عقیدہ ہے، اور اس مسئلہ میں ان کے اور اہل سنت کے مابین بعض لفظی اختلاف نہیں ہے، بلکہ لفظی اور معنوی دونوں ہے اور اس پر بہت سے احکامات مرتب ہوتے ہیں جنہیں اہل سنت اور مرجمہ کے قول میں غور و تدبر کرنے والے جانتے ہیں، واللہ المستعان۔

سب قتل کر دیا جائے گا (۱)۔

مرجحہ کا مذہب ہمیہ کے مذہب کے موافق ہے دونوں کا کہنا ہے کہ دین ایک ہے اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی، چنانچہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ فسق کار اور سب سے زیادہ اطاعت گزار دونوں کا ایمان یکساں ہے، اور مرجحہ کے مذہب میں ایمان مجرد تصدیق کا نام ہے (۲)۔

ان کی تردید ان شاء اللہ مناقشہ کی فصل میں آئے گی (۳)۔

دوسری فصل:

سابقہ آراء کا جائزہ اور دلیل کی روشنی میں حق کا بیان
پہلا مبحث: خوارج کا جائزہ (مناقشہ)۔

(۱) خوارج کی تردید: امام نسفي رحمہ اللہ نے درج ذیل آیت کریمہ کی روشنی میں خوارج پر کئی رد کئے ہیں:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا توبُوا إِلَى اللَّهِ تُوبَةً نَصْوَحاً﴾ (۱)۔
اے ایمان والو! اللہ کی طرف خالص توبہ کرو۔

چنانچہ توبہ نصوح (خالص توبہ) کبیرہ گناہ ہی سے ہوتی ہے۔
اسی طرح احادیث رسول ﷺ سے بھی کئی دلیلیں اخذ کی ہیں، رہی حدیث نبوی ﷺ:

(۱) سورۃ اتحمیم: ۸۔

(۱) شرح العقیدۃ الطحاویہ، ص ۳۵۵۔

(۲) الاجوہۃ المفیدہ علی اسناتۃ العقیدہ، ص ۵۹۔

(۳) دیکھئے: حصہ (۲۸۳)۔

خوارج کی غلطی یہ ہے کہ وہ کبیرہ و صغیرہ گناہوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان فرق کیا ہے، ارشاد باری ہے:

﴿اَن تَحْتَبُوا كَبَائِرَ مَا تَنْهَوْنَ عَنْهُ نَكْفُرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتُكُمْ وَنَدْخُلُكُمْ مَدْخَلًا كَرِيمًا﴾ (۱)۔

اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور عزت و بزرگی کی جگہ داخل کر دیں گے۔

لہذا خوارج امت کی تکفیر کے لئے خواہ کتنی بھی کوشش کریں کامیاب نہیں ہو سکتے، خواہ تمام گناہوں کو کبائر بنادیں لیکن کسی عقلی و سمعی دلیل کی راہ نہیں پاسکتے (۲)۔

کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے:
کبائر: کبیرہ کی تعریف میں اختلاف ہے، سب سے عمدہ تعریف یہ ہے

(۱) سورۃ النساء: ۳۱۔

(۲) الخوارج والاصول التاریخیہ لمسنۃ تکفیر اسلام، ص ۳۱۔

”لَا يَزِنِي الزَّانِي حِينَ يَزِنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقَ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرُبَ الْخَمْرُ حِينَ يَشْرُبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ“ (۱)۔

زنا کار زنا کاری کے وقت مومن نہیں رہتا، چور چوری کے وقت مومن نہیں رہتا اور شراب خور شراب خوری کے وقت مومن نہیں رہتا۔

کی تفسیر تو امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”صحیح قول مجتهدین نے کہا ہے یہ ہے کہ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ وہ جب گناہ کرتا ہے تو کامل مومن نہیں ہوتا، یہ ان الفاظ میں سے ہے جن کا اطلاق کسی چیز کی نفی کے لئے ہوتا ہے اور اس سے اس کے کمال اور عمدگی کی نفی مراد ہوتی ہے، جیسے کہا جاتا ہے: نفع بخش علم کے علاوہ کوئی علم نہیں، اور اونٹ کے علاوہ کوئی مال نہیں اور زندگی در حقیقت آخرت کی زندگی ہے (۲)۔

(۱) صحیح مسلم، ۱/ ۲۶۔

(۲) صحیح مسلم بشرح نووی، ۱/ ۳۱۔

آزاد کے بد لے غلام غلام کے بد لے عورت عورت کے بد لے،
ہاں جس کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی
جائے اسے بھلائی کی ابتداء کرنی چاہئے۔
چنانچہ اللہ نے قاتل کو مونوں کے زمرہ سے خارج نہیں کیا بلکہ اسے ولی
قصاص کا بھائی فرار دیا، اور بلاشبہ اس سے مراد دینی اخوت ہے۔

(۲) اللہ عزوجل کا ارشاد ہے:

﴿وَإِن طائفتان مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أُقْتِلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا
فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتَلُوا الَّتِي تَبَغِي حَتَّى
تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ﴾ (۱)۔

اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں میل ملا پ
کر دیا کرو پھر اگر ان دونوں میں سے ایک جماعت دوسرا
جماعت پر زیادتی کرے تو تم (سب) اس گروہ سے جوزیادتی کرتا
ہے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔

(۱) سورۃ الحجرات: ۹۔

کہ کبیرہ گناہ وہ ہیں جن پر کوئی حد (معین اسلامی سزا) مرتب ہوتی ہو یا اس
پر لعنت یا غصب کی وعید سنائی گئی ہو۔

صغریٰ: کہا گیا ہے کہ صغیرہ گناہ وہ ہیں جن پر دنیا میں نہ کوئی حد مرتب
ہوتی ہو اور نہ آخرت میں کوئی وعید، اور وعید سے مراد جہنم یا لعنت یا غصب کی
وعید ہے (۱)۔

خوارج اور ان کے ہم مشرب لوگ جو کبیرہ گناہوں کے مرکبین سے
ایمان سلب کرتے ہیں ان کی تردید اللہ عزوجل کے درج ذیل فرمان سے
ہوتی ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَتَبْ عَلَيْكُمُ الْقَصَاصُ فِي الْفَتْلِي
الْحَرْ بِالْحَرْ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثِي بِالْأَنْثِي فَمَنْ عَفَى لَهُ
مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعَ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (۲)۔

اے ایمان والو! تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہے، آزاد

(۱) شرح عقیدہ طحا ویہ، ص ۳۱۸۔

(۲) سورۃ البقرہ: ۲۷۸۔

(۳) نیز ارشاد ہے:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ﴾ (۱)-

(یار کھو) سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں پس اپنے دو بھائیوں میں ملاپ کر دیا کرو۔

کتاب و سنت کے نصوص اور اجماع امت دلالت کنال ہیں کہ زنا کا رچور اور تہمت گروغیرہ کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ ان پر حد قائم کی جائے گی، اس سے معلوم ہوا کہ یہ مرتد نہیں ہیں (۲)۔

رہا خوارج اور ان کے ہم مشرب لوگوں کے اس عقیدہ کی تردید کے اہل کبائر جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، تو امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”اہل کبائر... اگر حالت توحید میں وفات پائیں اور اللہ کو پہچانتے ہوئے اس سے ملاقات کریں گرچہ تو بہنة کئے ہوں، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہ رہیں گے بلکہ اللہ کی حکمت و مشیت تسلی ہوں گے، اگر وہ چاہے تو اپنے فضل سے انہیں

بخش دے اور معاف فرمادے، جیسا کہ اللہ نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا ہے:

﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ (۱)۔

اور اس کے علاوہ گناہ جس کے لئے چاہے بخش دیتا ہے۔

اور اگر چاہے تو اپنے عدل و انصاف کی بنیاد پر انہیں عذاب جہنم میں بتلا کرے اور پھر اپنی رحمت اور اپنے اطاعت گزار سفارشیوں کی سفارش سے انہیں اس سے نکال کر جنت میں داخل فرمادے“ (۲)۔

نیز آپ ﷺ کا ارشاد ہے:

”من مات من أمتی لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة، قالوا: وإن سرق وإن زنى؟ قال: وإن سرق وإن زنى؟“ (۳)۔

(۱) سورۃ النساء: ۲۸ و ۲۹۔

(۲) شرح عقیدہ طحاویہ، ص ۳۱۶۔

(۳) سنن ابن ماجہ، ۲/ ۱۲۹۹۔

(۱) سورۃ الحجرات: ۱۰۔

(۲) شرح عقیدہ طحاویہ، ۳۶۱۔

کے دل میں جو کے برابر ایمان ہوگا۔

آپ ﷺ کا ارشاد ہے:

”... فَأَخْرَجَ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مُثْقَالٌ حَبَّةٌ مِنْ بَرَّةٍ أَوْ شَعِيرَةٍ مِنْ إِيمَانٍ“۔

چنانچہ میں جہنم سے ان لوگوں کو نکلواؤں گا جن کے دل میں ایک گیہوں یا جو کے برابر ایمان ہوگا۔

دوسری مرتبہ: ان لوگوں کو جہنم سے نکلوائیں گے جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا۔

تیسرا مرتبہ: ان لوگوں کو جہنم سے نکلوائیں گے جن کے دل میں رائی کے دانے کے معمولی ترین حصہ کے برابر ایمان ہوگا۔

چوتھی مرتبہ: ان لوگوں کو جہنم سے نکلوائیں گے جنہوں نے ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کہا، چنانچہ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے:

”... وَعَزْتِي وَجْلَالِي، وَكَبْرِيَائِي وَعَظَمَتِي لِأَخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ (۱)۔

(۱) صحیح مسلم، ۱/۱۸۳۔

میری امت میں سے جو اس حال میں مرا کہ اللہ کے ساتھ کچھ بھی شریک نہیں کیا تھا وہ جنت میں داخل ہوگا، لوگوں نے عرض کیا: اگر چوہ چوری اور زنا کرے؟ آپ نے فرمایا: اگر چہ اس نے چوری اور زنا کی ہو؟

اور اس بارے میں حدیثیں متواتر ہیں... آپ ﷺ کا ارشاد ہے:

”شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي“ (۱)۔

میری سفارش میری امت کے کبیرہ گناہوں کے مرتكبین کے لئے ہے۔

اسے امام احمد رحمہ اللہ نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔

یہ سفارش آپ ﷺ سے چار مرتبہ ہوگی:

پہلی مرتبہ: (آپ اپنے رب کی اجازت کے بعد جیسا کہ قرآن نے صراحت کی ہے) اپنی سفارش سے ان لوگوں کو جہنم سے نکلوائیں گے جن

(۱) مندادہ، ۲۱۳/۳، علامہ البانی نے مشکاة المصالح حدیث (۵۵۹۸، ۵۵۹۹) میں فرمایا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔

۳- نیز آپ کا فرمان ہے:

”منْ أَتَيْ حَائِضًاً أَوْ امْرَأَةً فِي دُبْرَهَا ... فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ“ (۱)۔

جس نے حائضہ عورت سے یا عورت کی سرین میں مباشرت کی...
اس نے محمد ﷺ پر نازل کئے گئے دین کا کفر کیا۔
اور اس کی مثالیں بے شمار ہیں۔

جواب:

اہل سنت اس بات پر متفق ہیں کہ کبیرہ گناہ کا مرتب ایسا کفر نہیں کرتا ہے جس کے سبب وہ ملت اسلامیہ سے بالکلیہ خارج ہو جائے جیسا کہ خوارج کا عقیدہ ہے، کیونکہ اگر وہ ایسا کفر کرتا جس سے ملت سے خارج ہو جائے تو وہ مرتد قرار پاتا اور اسے بھر صورت قتل کر دیا جاتا، نولی قصاص کی معافی قبول کی جاتی اور نہ ہی زنا کاری، چوری اور شراب خوری وغیرہ کی حدیں ہی اس پر

(۱) مسندا امام احمد، ۲/۳۰۸، یہ حدیث صحیح ہے جیسا کہ علامہ البانی نے آداب الزرافہ ص ۳۱ میں فرمایا ہے۔

میری عزت، جلال، کبریائی اور عظمت کی قسم! میں ان لوگوں کو جہنم سے ضرور نکالوں گا جنہوں نے ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کہا۔

اہل سنت و جماعت کے عقیدہ پر ایک اعتراض اور اس کا جائزہ
۱- یہ کہا جا سکتا ہے کہ شارع نے بعض گناہوں کو کفر کہا ہے، جیسا کہ ارشاد نبوی ہے:
”سَبَابُ الْمُؤْمِنِ فِسْوَقٌ وَقَتْالُهُ كَفَرٌ“ (۱)۔
مومن کو گالی دینا فتنہ اور اس سے ققال کرنا کفر ہے۔

۲- نیز آپ کا ارشاد ہے:
”إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا“ (۲)۔

جب آدمی اپنے (دینی) بھائی سے کہہ دے ”اے کافر“، تو ان دونوں میں کوئی ایک ضرور اس کا مستحق ہوتا ہے۔

(۱) صحیح بخاری مع فتح البری، ۱۰/۳۶۲، صحیح مسلم، ۱/۸۱۔

(۲) صحیح مسلم، ۱/۵۱۳، صحیح بخاری مع فتح البری، ۱۰/۲۷۔

جائے اسے بھلائی کی اتباع کرنی چاہئے۔

چنانچہ اللہ نے قاتل کو مونوں کے زمرہ سے خارج نہیں کیا ہے بلکہ اسے ولی قصاص کا بھائی قرار دیا ہے، اور بلاشبہ اس سے مراد دینی اخوت ہے (۱)۔

دوسرا بحث: معتزلہ کا جائزہ (مناقشہ)۔

محدثین کرام رحمہم اللہ نے سنت نبویہ میں ثابت احادیث کو بنیاد بناتے ہوئے معتزلہ کی گمراہیوں پر رد کیا ہے، چنانچہ ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”يَدْ خُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارِ، ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: أَخْرِجُو مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ، فَيُخْرِجُونَ مِنْهَا قَدْ أَسْوَدُوا فِيلَقُونَ فِي نَهْرِ الْحَيَا أَوِ الْحَيَاةِ - شَكْ مَالِكَ - فَيُنَبِّتُونَ كَمَا تَبَنَّتِ الْحَبَّةُ فِي جَانِبِ السَّيْلِ أَلَمْ تَرَ أَنَّهَا

(۱) شرح عقیدہ طحاویہ، ص ۳۶۰ تا ۳۶۱۔

قام کی جاتیں، اس بات کا بطلان اور خرابی دین اسلام میں بدیہی طور پر معلوم ہے۔

نیز اہل سنت اس بات پر بھی متفق ہیں کہ کبیرہ کا مرتكب ایمان و اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے، نہ کفر میں داخل ہوتا ہے اور نہ ہی کافروں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے مستحق جہنم ہوگا (جیسا کہ معتزلہ کا عقیدہ ہے) اور ان کا قول بھی باطل ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کبیرہ کے مرتكب کو مونوں میں سے قرار دیا ہے، اللہ عز وجل کا رشاد ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْقَصَاصَ فِي الْقَتْلِيِ الْحَرُّ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأَنْثَى فَمَنْ عَفَى لَهُ مِنْ أَخْيَهُ شَيْءٌ فَاتَّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (۱)۔

اے ایمان والو! تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہے، آزاد آزاد کے بد لے غلام غلام کے بد لے، عورت عورت کے بد لے، ہاں جس کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی

(۱) سورہ البقرہ: ۱۷۸۔

تخرج صفراء ملتوية“ (۱)۔

جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا: جن کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہو اسے جہنم سے نکال دو، چنانچہ انہیں نکالا جائے دراں حالیہ وہ (جل کر) سیاہ ہو چکے ہوں گے، پھر انہیں نہر حیا یا نہر حیات (راوی حدیث مالک نے شک کیا ہے) میں ڈالا جائے گا، تو وہ ایسے اگیں گے جیسے سیلا ب کے کنارے دانہ اگتا ہے، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ لپٹا ہوا زرد رنگ میں نکلتا ہے۔

اور جب حد کا قیام گنہ گار کے لئے کفارہ اور توبہ کے اعلان کے قائم مقام تسلیم کر لیا گیا تو جس پر حد نہ قائم کی گئی اور نہ ہی اس نے توبہ کی، اس کے گناہ کی بخشش اللہ کے ارادہ و مشیت کے تحت رہن ہوگی، یہ چیز اپنے صحابہ کی ایک جماعت کے بارے میں آپ ﷺ کے اس فرمان کے مصدق ہے جس میں آپ نے فرمایا:

(۱) صحیح بخاری مع فتح الباری، ۱/۲۷۲۔

”تعالوا بایعونی علی ألا تشرکوا بالله شيئاً ولا تسرقوها، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا بهتاناً تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله، فأمره إلى الله: إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه“۔

آؤ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کچھ بھی شریک نہ کرو گے، نہ چوری کرو گے، نہ زنا کرو گے، نہ اپنی اولاد کو قتل کرو گے، نہ اپنے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان تراشیدہ کوئی بہتان باندھو گے اور نہ بھلانی میں میری نافرمانی کرو گے، تم میں سے جس نے یہ عہد و پیمان پورا کیا اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے اور جو ان میں سے کسی گناہ میں ملوث ہو گیا اور دنیا میں اسے اس کی سزا دیدی گئی تو وہ اس کے لئے کفارہ ہو گی، اور جو اس میں سے کسی چیز کا مرتکب ہوا

معزلہ کے اس قول کی تردید کہ مرتكب کبیرہ و منزوں کے درمیان ایک منزلہ میں ہوگا، تو وہ یوں ہے:

(۱) اللہ عزوجل کا ارشاد ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتُبُ اللَّهِ أَعْلَمُ بِالْقَصَاصِ فِي الْفَتْنَىٰ
الْحَرُّ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْشَى بِالْأَنْشَى فَمَنْ عَفَى لَهُ
مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعُ الْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ
بِالْحَسَانِ﴾ (۱)۔

اے ایمان والو! تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کی گیا ہے، آزاد آزاد کے بد لے غلام غلام کے بد لے عورت عورت کے بد لے، ہاں جس کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے اسے بھائی کی اتباع کرنی چاہئے اور آسمانی کے ساتھ دیت ادا کر دینی چاہئے۔

چنانچہ اللہ نے قاتل کو مونوں کے زمرہ سے خارج نہیں کیا بلکہ اسے ولی

(۱) سورۃ البقرہ: ۲۸۱۔

اور اللہ نے اس کی پرده پوشی کی تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اگر چاہے تو سزادے اور چاہے تو اسے معاف کر دے۔ راوی کہتے ہیں: ہم نے ان تمام باتوں پر آپ کے ہاتھوں پر بیعت کی، اسے امام بخاری رحمہ اللہ نے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے (۱)۔

غیر تابع گنہ گار کے ہمیشہ ہمیش کے لئے مستحق جہنم ہونے کے بارے میں معزلہ قدریہ کے تشدد کے سبب ان پر مشہور مثل "السید یعطی والعبد یعنی" (یعنی آقادے اور بندہ منع کرے) صادق آتی ہے۔ اور اللہ کے لئے مثل اعلیٰ ہے۔ کیونکہ اللہ عزوجل نے گناہ کبیرہ پر مصر شخص کی (اگر چاہے تو) مغفرت کی صراحت فرمائی ہے، اور یہ (معزلہ) اس صراحت کو ٹھکراتے ہیں اور (بزم خویش) درستی اور درست ترین کے قاعدہ کی بنیاد پر مغفرت کا انکار کرتے ہیں جو فساد و خراب ہونے کے زیادہ لا ق مُستحق ہے (۲)، رہا

(۱) صحیح بخاری مع فتح الباری، ۷/ ۲۱۹۔

(۲) موقف المُعْذَل مِنَ النَّسَاءِ وَمَوَاطِنِ الْخَرَافَةِ عَنْهَا، ص ۱۳۸۔

بھائی بھائی ہیں پس اپنے دو بھائیوں میں ملاب کرادیا کرو۔

(۳) اللہ عز و جل کا ارشاد ہے:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجْلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيهِمْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾ (۱)۔

حقیقی مومن وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل وہل جاتے ہیں اور جب اس کی آیتیں ان پر تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔

اس سے معزلہ کی تردید ہوتی ہے کیونکہ فاسق ایمان کے نام میں داخل ہے۔

کتاب و سنت کے نصوص اور اجماع امت دلالت کنال ہیں کہ زنا کا ر تہمت گرا اور چور وغیرہ کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ ان پر حد قائم کی جائے گی، اس سے معلوم ہوا کہ یہ مرتد نہیں ہیں (۲)، اور خوارج کے مذهب کے مناقشہ

(۱) سورۃ الانفال: ۲:-

(۲) شرح عقیدہ طحاویہ، ص ۳۶۱۔

قصاص کا بھائی قرر دیا، اور بلاشبہ اس سے مراد دینی اخوت ہے۔

(۲) اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَفْتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأَخْرَى فَقَاتَلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسَطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ﴾ (۱)۔

اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں ملاب کرادیا کرو، پھر اگر ان دونوں میں سے ایک جماعت دوسری جماعت پر زیادتی کرے تو تم (سب) اس گروہ سے جو زیادتی کرتا ہے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، اگر لوٹ آئے تو پھر انصاف کے ساتھ صلح کرادو اور عدل کرو، بیشک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے (یاد رکھو) سارے مسلمان

(۱) سورۃ الحجرات: ۹:-

”لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً
ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه“ (۱)۔

میرے صحابہ کو گالی ندو (برا جھلانہ کہو)، کیونکہ اگر تم میں سے کوئی کوہ
احد کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو ان میں سے کسی کے مدد اور
نصف مدد تک نہ پہنچے گا۔

اللہ عزوجل نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر رسول اللہ ﷺ کے
صحابہ کی مدح و ثناء اور تعریف و ستائش فرمائی ہے، ان میں سے اللہ عزوجل کا
ارشاد ہے:

﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ
رَبَّهُ﴾ (۲)۔

اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، یہ اس شخص کے
لئے ہے جو اپنے رب سے ڈرے۔

(۱) صحیح بخاری مجمع فتح الباری، ۷/۲۱ و صحیح مسلم، ۱۹۶۶/۲۔

(۲) سورۃ البینہ: ۸۔

میں کتاب و سنت کے قطعی دلائل گزر چکے ہیں کہ اہل قبلہ میں سے کبائر کے
مرتکبین کو ان کے گناہ کبیرہ - اگر وہ انہیں حلال نہ سمجھیں تو - اسلام سے
خارج نہیں کرتے، لہذا اگر وہ مرنے سے پہلے تو بکریں تو اللہ تعالیٰ ان کی
تو بہ قبول فرمائے گا، اور اگر وہ بدستور کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہوئے
مرجاییں تو ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اگر وہ چاہے تو انہیں پہلے وہله میں
جنت میں داخل کر دے اور اگر چاہے تو انہیں عذاب دے پھر اپنی رحمت اور
اپنے اطاعت شعارات سفارشیوں کی سفارش سے انہیں جہنم سے نکال دے۔

تیسرا بحث: شیعہ کا جائزہ (مناقشہ)۔

شیعہ نے رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کرام کی شان میں ایسی باتیں کہی
ہیں جن کی اللہ عزوجل نے کوئی دلیل نہیں اتنا ری بلکہ صحابہ کے فضائل میں
ایسی چیزیں وارد ہوئی ہیں جو اللہ تعالیٰ پران کے بے علم باتیں کہنے والوں کو
ذلیل ورسوا کرتی ہیں، چنانچہ انہوں نے یہ (نازیبا) باتیں کہہ کر کتاب اللہ،
سنۃ رسول اور صحابہ اور ان کے بعد کے لوگوں کے اجماع کی مخالفت کی ہے،
نبی رحمت ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

نیز ارشاد ہے:

ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتی فإذا ذهب أصحابي

أُتی أمتی ما يوعدون“ (۱)۔

ستارے آسمان کے باعث امان ہیں جب ستارے چلے جائیں گے تو آسمان اس چیز سے دوچار ہوگا جس کا اس سے وعدہ کیا گیا ہے میں اپنے صحابہ کا سہارا ہوں، جب میں چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ اس (مصیبت) سے دوچار ہوں گے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، اور میرے صحابہ میری امت کے سہارا ہیں جب میرے صحابہ چلے جائیں گے تو میری امت اس (مصیبت) سے دوچار ہوگی جس کا اس سے وعدہ کیا گیا ہے۔

۲- نبی کریم ﷺ سے دریافت کیا گیا کہ: آپ کے نزدیک سب سے

(۱) صحیح مسلم، ۱۹۶۱/۲، محمد فواد نے امام نووی سے نقل کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ”النجوم امنة للسماء“ کا معنی یہ ہے کہ جب تک ستارے باقی رہیں گے آسمان باقی رہے گا اور جب قیامت کے روز ستارے بکھر جائیں گے اور بے نور ہو جائیں گے تو آسمان کمزور ہو کر پھٹ جائے گا اور اپنا وجود کھو دے گا۔

﴿والذين آمنوا وهاجروا وجاحدوا في سبيل الله والذين آروا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقاً لهم مغفرة ورزق كريم﴾ (۱)۔

جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد پہنچائی، یہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لئے بخشش ہے اور عزت کی روزی۔

نیز صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فضائل میں رسول اللہ ﷺ کی بیشمار احادیث اور آثار وارد ہیں، ان میں سے وہ حدیث بھی ہے جسے امام مسلم رحمہ

اللہ نے اپنی سند سے روایت کیا ہے:
ا- رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

”النجوم امنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ماتوعده، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي

(۱) سورۃ الانفال: ۷۳۔

کی اولاد ان منافقین کے جن کے دل بغرض وعداوت اور اللہ کے مبارک دین (اسلام) کے فروغ کی راہ میں ان کے ان گنت جلیل القدر خدمات اور کارناموں کے سبب ان کے خلاف حقد و حسد سے بھرے ہوئے ہیں، اور کتاب و سنت کے پیروکار ان مجاہدین سے کافروں کے غیظ و غضب کا یہی حقیقی سبب ہے، خاص طور پر ابو بکر و عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے خلاف، جنہوں نے فتح کے لشکروں کی زمام کا رسنچائی اور غلبہ و نصرت کی وجہ تیار کیں اور یہودیوں کے خاص طور پر مسلمانوں سے جلنے کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے جہڈے تلے ان کی اساس مسما کر دی، ان کے رگ و ریشے کاٹ دیئے اور انہیں بخ و بن سے اکھاڑ پھینکا جس وقت ان کے اسلاف بنو قیقاع، بنو نصیر اور بنو قریظہ مدینہ میں سکونت پذیر تھے، اسی طرح نبی کریم ﷺ کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد مبارک میں جب انہوں نے ان کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کی وصیت:

”آخر جوا اليهود من جزيرة العرب“ (۱)۔

(۱) صحیح بخاری مع فتح الباری، ۲/۲۱، اور انہوں نے فرمایا ہے: ”آخر جوا المشرکین =

زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ نے فرمایا: ”عائشہ رضی اللہ عنہا“، میں نے پوچھا: مردوں میں سے؟ آپ نے فرمایا: ”اس کے باپ (ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ)“، میں نے پوچھا پھر ان کے بعد کون؟ آپ نے فرمایا: ”پھر عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ“، پھر آپ نے کئی لوگوں کے نام لئے (۱)۔

۳- نبی کریم ﷺ نے فرمایا:
”إن عبد الله رجل صالح“ (۲)۔

بیشک عبداللہ نیک آدمی ہیں۔ (یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ) یہ اور ان کے علاوہ دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی انفرادی اور اجتماعی طور پر اللہ عز و جل نے مدح و ستائش فرمائی ہے اور ناطق و حی رسول اللہ ﷺ نے ان کی تعریف و توصیف کی ہے اور ان کے حق میں دعا و مغفرت فرمائی ہے، اور جو بھی مومنین آپ کے نقش قدم پر چلتے اور آپ کے اسوہ کی پیروی کرتے ہیں وہ ان صحابہ کی مدح و ستائش کرتے ہیں، برخلاف یہودیوں اور مجوسیوں

(۱) صحیح بخاری مع فتح الباری، ۷/۱۸۔

(۲) صحیح بخاری مع فتح الباری، ۷/۹۰ و صحیح مسلم، ۲/۱۹۲۔

کے بعد آئے، پھر جوان کے بعد آئے، پھر ان کے بعد کچھ ایسے لوگ آئیں گے جن کی قسمیں گواہیوں پر اور گواہیاں قسموں پر سبقت کر جائیں گی۔

۵- ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً مابلغ مد أحدهم ولا نصيفه“ (۱)۔

میرے صحابہ کو گالی نہ دو (برا بھلانہ کہو)، کیونکہ اگر تم میں سے کوئی کوہ احد کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو ان میں سے کسی کے مدد اور نصف مدد تک نہ پہنچے گا۔

۶- نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے:

”لو كنت متخدًا خليلاً لاتخذت أباً بكر ولكن أخي

(۱) جامع ترمذی، ۲۹۶/۵، انہوں نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، یہ حدیث صحیح بخاری میں فتح الباری (۲۱/۲۱) اور صحیح مسلم (۳/۱۹۶۷) میں بھی ہے۔

کہ یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکال بھگاوے۔

کونا فند کیا تھا، اور جزیرہ عرب کو ان کی ناپاکیوں اور دسیسہ کاریوں سے پاک کیا تھا، اور رسول اللہ ﷺ کے حکم کے مطابق کسی یہودی کو جزیرہ عرب میں باقی نہ چھوڑا تھا (۱)۔

۲- عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”خیر الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي قوم من بعد ذلك تسيق أيمانهم شهاداتهم وشهاداتهم أيمانهم“ (۲)۔

سب سے بہتر لوگ میرے زمانہ کے لوگ ہیں، پھر وہ لوگ جوان

= من جزیرۃ العرب = حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”آخر جوا اليهود“ کے الفاظ جرجانی کی روایت میں ہیں، نیز فرماتے ہیں: ”آخر جوا المشرکین“ کی روایت زیادہ ثابت ہے۔

(۱) اشیعہ والثہ، ۱۵۵، ۵۵ تا ۵۵، کچھ تصرف کے ساتھ۔

(۲) جامع ترمذی، ۲۹۵/۵، انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، نیز دیکھئے: صحیح سنن ترمذی، ۲۲۰/۲۔

اس سے راضی ہوئے اور اللہ نے ان کے لئے ایسے باغِ مہیا
کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی جن میں (وہ)
ہمیشہ رہیں گے یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔

۸-اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يَبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعِلْمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ كَيْنَةً عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴾ (۱)۔

یقیناً اللہ تعالیٰ مونوں سے خوش ہو گیا کہ وہ درخت تلے تجھ سے
بیعت کر رہے تھے، ان کے دلوں کا حال اس نے معلوم کر لیا اور ان
پر اطمینان نازل فرمایا اور انہیں قریب کی فتح عطا فرمائی۔

۹-نیز اللہ عزوجل کا ارشاد ہے:

﴿وَمَنْ يَشَاقِقُ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولَهُ مَا تَوَلَّ وَنَصْلَهُ جَهَنَّمُ وَسَاءُتْ

(۱) سورۃ الفتح۔ ۱۸۔

وصاحبی﴾ (۱)۔

اگر مجھے کسی کو خلیل (جگری دوست) بنانا ہوتا تو ابو بکر صدیق رضی
اللہ عنہ کو بناتا، لیکن وہ میرے بھائی اور رفیق کا رہیں۔

۷-اللہ عزوجل نے نبی کریم ﷺ کے صحابہ اور ان کے مخلص پیروکاروں
کے لئے ایمان کی شہادت دی ہے، الہذا قطعی طور پر معلوم ہوا کہ درج ذیل
آیت کریمہ سے وہی مراد ہیں:

﴿وَالسَّابِقُونَ الْأُولُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ
اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعْدَدْ لَهُمْ
جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ
الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (۲)۔

اور جو مہاجرین اور انصار سابق اور مقدم ہیں اور جتنے لوگ اخلاص
کے ساتھ ان کے پیرو ہیں اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب

(۱) صحیح بخاری مع فتح الباری، ۷/۱۷۔

(۲) سورۃ التوبہ: ۱۰۰۔

مصیراً^{﴿﴾}(۱)۔

اور اجماع کا یہود و نصاریٰ سے بڑھ کر انکار کرنے والے ہیں اور ان میں وہ بھی ہیں جو ممکنہ حد تک اس (نفاق) کا اظہار بھی کرتے ہیں اور وہ بظاہر شہادتین کے اقراری ہیں، اس میں مسلمانوں کے مابین کوئی اختلاف نہیں کہ آدمی اگر ظاہر و متواتر واجبات وغیرہ کا انکار ظاہر کرے تو اس سے توبہ کروائی جائے گی، اگر توبہ کر لے تو ٹھیک ورنہ اسے کافر و مرتد ہونے کے سبب قتل کر دیا جائے گا(۱)۔

امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:(۲) ”امام بخاری رحمہ اللہ نے درج ذیل حدیث ذکر کر کے مرجحہ پر دکنا چاہا ہے، کیونکہ اس میں ایمان کے ساتھ گناہوں کی ضرر رسانی کا بیان ہے، اسی طرح معزلہ کے قول ”گناہ ہمیشہ ہمیش کے لئے مستحق جہنم ہونے کے موجب ہیں“ پر بھی دکنا چاہا ہے، چنانچہ جہنم میں داخل ہونے سے اس میں ہمیشہ ہمیش رہنا لازم نہیں آتا (۳)۔

(۱) شرح عقیدۃ الحداوی، ص ۳۵۵۔

(۲) فتح الباری، ۱/۷۲۔

(۳) موقف المحتز لمن النبی النبویہ و مواطن آخر فہم عنہا، ص ۱۳۸۔

جو شخص راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے باوجود بھی رسول ﷺ کی مخالفت کرے اور تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے، ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جدھر وہ خود متوجہ ہو اور دوزخ میں ڈال دیں گے، اور وہ بہت براٹھ کانہ ہے۔

معلوم ہوا کہ جس نے مومنوں کی راہ کے علاوہ (کسی اور راہ) کی پیروی کی اللہ تعالیٰ اسے اسی طرف متوجہ کر دے گا جس طرف وہ خود متوجہ ہو گا، اور اسے جہنم رسید کر دے گا(۲)۔

چوتھا مبحث: مرجحہ کا جائزہ (مناقشہ)۔

جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح کفر کے ساتھ نیکی سو دمند نہیں ہوتی اسی طرح ایمان کے ساتھ گناہ (بھی) نقصان نہیں پہنچاتا، ان سے کہا جائے گا کہ اہل قبلہ میں منافقین بھی ہیں، جن میں ایسے لوگ ہیں جو کتاب و سنت

(۱) سورۃ النساء: ۱۱۵۔

(۲) فتاویٰ شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ۳/۱، ۲۶۔

گے جیسے سیلاب کے کنارے دانہ اگتا ہے، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ لپٹا
ہوا زردر گنگ میں نکلتا ہے۔

نیز اللہ عز و جل کا ارشاد ہے:

﴿إِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانَكُمْ فِي
الدِّينِ﴾ (۱)۔

اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکاۃ دیں تو وہ تمہارے دینی
بھائی ہیں۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے شرک سے توبہ کو نماز کی اقامت اور زکاۃ کی ادائیگی
کے ذریعے۔ قول اور عمل قرار دیا ہے، اور اعمال کے سبب لوگوں میں تفضل
ہوتا ہے، نیز ارشاد باری ہے:

﴿إِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُوا
سَبِيلَهُمْ﴾ (۲)۔

(۱) سورۃ التوبۃ: ۱۱۔

(۲) سورۃ التوبۃ: ۵۔

حدیث یہ ہے: ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”يَدْخُلُ أَهْلَ الْجَنَّةِ وَأَهْلَ النَّارِ النَّارَ ، ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ
تَعَالَى: أَخْرِجُوهَا مِنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةِ مِنْ خَرْدَلِ
مِنْ إِيمَانٍ ، فَيَخْرُجُونَ مِنْهَا قَدْ اسْوَدُوا فِيلَقُونَ فِي نَهَرِ
الْحَيَا أَوِ الْحَيَاةِ – شَكْ مَالِكٌ – فَيَنْبَتُونَ كَمَا تَنْبَتَ
الْحَبَّةُ فِي جَانِبِ السَّيْلِ أَلْمَ تَرْ أَنْهَا تَخْرُجُ
صَفَرَاءً مُلْتَوِيَّةً“ (۱)۔

جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ
فرمائے گا: جن کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہو
اسے جہنم سے نکال دو، چنانچہ انہیں نکالا جائے دراں حالیکہ وہ (جل
کر) سیاہ ہو چکے ہوں گے، پھر انہیں نہر حیا یا نہر حیات (راوی
حدیث مالک نے شک کیا ہے) میں ڈالا جائے گا، تو وہ ایسے آگیں

(۱) صحیح بخاری مع فتح الباری، ۱/۷۲۶۔

اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکاۃ دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔
نبی کریم ﷺ نے (بھی) بیان فرمایا ہے کہ اعمال ایمان کے مسمی میں
داخل ہیں، آپ کا ارشاد ہے:

”الإيمان بضع وسبعون، أو بعض وستون شعبة، فأفضلها
قول لا إله إلا الله، وأدنىها إماتة الأذى عن الطريق،
والحياء شعبة من الإيمان“ (۱)۔

ایمان کی ستر سے زیادہ یا ساٹھ سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سب
سے افضل ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“، کہنا ہے اور سب سے کم درجہ راستے سے
تکلیف دہ چیز کا ہٹانا ہے، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔
لہذا جس نے یہ کہا کہ اللہ کے فرائض ایمان میں سے نہیں ہیں، اس نے بڑا
عظیم جھوٹ کہا، اگر معاملہ ایسا ہی ہوتا جیسا وہ کہتے ہیں تو اللہ کے نافرمانوں اور
گناہ و محramات کے مرتبین پر کوئی سرزنش نہ ہوتی، عمل کے بغیر (محض) اس کا
اقرار ہی کافی ہوتا، یہ لتنی بڑی اور فتح بات ہے! ان اللہ وانا الیہ راجعون (۲)۔

(۱) صحیح مسلم، ۶۳/۱۔

(۲) معارج القبول، ۳۱۲/۲۔

خاتمه: کتاب کے نتائج و ثمرات

الحمد للہ یہ بحث حتی الامکان تحقیق جستجو کے بعد پایہ تکمیل کو پہنچی، یہ
موضوع اہتمام و توجہ کے قابل ہے، کیونکہ اس کی بڑی اہمیت ہے جسے ہر
طالب علم کو جانانا گزیر ہے اس لئے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسلمانوں میں
سے بعض اہل قبلہ کی تکفیر کرتے ہیں، اور تکفیر کی بات کہنا اس کے قائل کے
لئے اس کے اور اللہ کے درمیان بہت ہی خطرناک ہے، کیونکہ ایسا کرنا اللہ
تعالیٰ پر بلا علم بات کہنا ہے، اور دوسرے ناحیہ سے بھی (سگین ہے) کیونکہ
جس پر کفر کا حکم لگایا جائے اس پر احکام کی تنفیذ کرنا ضروری ہے۔

لہذا غور و فکر کرنے بلکہ مستلزم میں بارہا سوچنے اور تأمل کرنے کی ضرورت
ہے یہاں تک کہ مسلمان کو اس قدر یقین ہو کہ اس میں کوئی شک و شبہ باقی نہ
رو جائے۔

اس بحث (کتاب) کے اہم ثمرات و نتائج تو بہت ہیں، چند اہم نتائج

حسب ذیل ہیں:

۱- مسلمانوں کے انہمہ و امراء کے خلاف بغاوت کرنا کتاب و سنت سے حرام ہے۔

۲- مسلمانوں کے ذمہ داروں مثلاً حکام اور علماء و امراء کی اطاعت معروف و بھلائی میں رعایا پر واجب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔

۳- ہر وہ شخص جو ایسے امام کے خلاف بغاوت کرے جس پر مسلمانوں کی جماعت متفق ہو اور کبیرہ گناہ کی بنیاد پر اس کی تکفیر کرے، اسے خارجی کہا جائے گا، اس کے حق میں حکم شرعی نافذ کرنا ضروری ہے۔

۴- تکفیر کے کچھ اصول ہیں جنہیں جاننا اور از بر کرنا ضروری ہے، یہاں تک کہ طالب علم اپنے معاملہ سے آگاہ ہو جائے۔

۵- علم شرعی کے طلب گارے لئے تکفیر کے ضوابط کی معرفت بہت اہم ہے۔

۶- تکفیر کے کچھ موانع ہیں جنہیں جاننا ضروری ہے۔

۷- اہل سنت و جماعت تمام فرقوں میں متوسط و معتدل ہیں خواہ تکفیر کے

مسئلہ میں یاد گیر مسائل میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کے بارے میں ارشاد فرمایا:

﴿وَكَذَلِكَ جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على
الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً﴾ (۱)۔

ہم نے اسی طرح تمہیں عادل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول ﷺ تم پر گواہ ہو جائیں۔

۸- تکفیر کا مسئلہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کا حق ہے، لہذا کافروں ہی ہے جسے اللہ اور اس کے رسول کا فرقہ ارادیں۔

۹- جو شخص کسی پر کفر کا حکم لگانا چاہے اسے چاہئے کہ اللہ پر بغیر علم بات کہنے کے اندازہ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس میں بارہاغر و فکر کر لے، کیونکہ جس کسی انسان پر کفر کا حکم لگایا جائے، اس پر شریعت اسلامیہ میں موجود مرتد کے احکام کی تنفیذ ضروری ہو جاتی ہے۔

۱۰- تکفیر کے مسئلہ میں اہل سنت و جماعت کا مستند (دلیل) کتاب و سنت

(۱) سورۃ البقرۃ: ۱۲۳۔

اور جماعت ہیں۔

میں نجات یافتہ جماعت ”اہل سنت و جماعت“ ہی ہے اور ان کے علاوہ جو
فرقے ہیں وہ حق پر نہیں بلکہ اپنے حالات کے اعتبار سے ہیں، جیسا کہ
(نتیجہ/ ایں) گزرا۔

اس بات کا علم کہ حق و باطل کے مابین سیزہ کاری ہمیشہ سے رہی ہے
لیکن الحمد للہ غلبہ و سر بلندی اخیر میں حق ہی کی ہوتی ہے، رہا باطل تو وہ مت
جاتا ہے جب کہ حق ثابت و پائیدار ہوتا ہے کسی طرح نہیں ڈگ گاتا۔

۱۵- مندرجہ ذیل الفاظ کے مابین تیز و تفرقی:

فقن	کفر	نفاق	فسق
	ظلم	شرک	بدعت۔

کیونکہ ان تمام چیزوں کی دو دو فوسمیں ہیں:

(الف) اکبر، جو ملت اسلامیہ سے خارج کر دیتا ہے اور اس کا مرتكب
ہمیشہ ہمیش کے لئے مستحق جہنم ہو جاتا ہے۔

(ب) اصغر، جو ملت سے خارج نہیں کرتا اور اس کا مرتكب اللہ کی مشیت
تلہ ہوتا ہے، اگر وہ چاہے تو اسے بخش دے اور ابتداءً سے جنت میں داخل

۱۱- اہل سنت و جماعت کے مخالف فرقے احوال و مقاصد کے اعتبار
سے مختلف ہیں، چنانچہ ان میں سے کچھ کافر ہیں، کچھ فاسق، ظالم اور گمراہ ہیں
اور کچھ خطا کار ہیں، جن کی مغفرت کا امکان ہے، اس بات کی وضاحت شیخ
الاسلام علامہ ابن تیمیہ، امام ابن القیم اور شیخ عبد الرحمن بن ناصر سعدی رحمہم
اللہ کے سابقہ بیانات سے ہوتی ہے۔

۱۲- شریعت اسلامیہ اہل قبلہ میں سے کسی پر بھی کفر کا حکم نہیں لگاتی، یہاں
تک کہ اسے کھول کر بتا دیا جائے، دلیل کے ساتھ حق کی رہنمائی کر دی
جائے، وضاحت اور فاسد عقولوں میں ابھرنے والے شبہات زائل کر دیجے
جائیں! چنانچہ اگر اس کے بعد بھی کوئی اپنے کفر و نفاق پر بدستور مصر
(اڑا) رہے تو اس وقت اس کے لئے کامیاب علاج کی ضرورت پڑتی ہے
اور وہ شریعت اسلامیہ میں مرتد کے احکام ہیں، اس سے توبہ کروائی جائے گی،
اگر توبہ کر لے تو ٹھیک ورنہ اسے کفر و ارتداد کی حالت میں قتل کر دیا جائے گا۔

۱۳- دلیل و برہان کے ساتھ حق کی معرفت اور یہ کہ سابقہ دلائل کی روشنی

کر دے اور اگر چاہے تو اسے ایک مدت تک سزا (عذاب) دے جسے وہی
جانتا ہے، پھر اپنی رحمت نیز اپنے اطاعت گزار سفارشیوں کی سفارش سے
جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے۔

۱۶- شرعی منح سے انحراف کی خطرناکی اور اس پر مرتب ہونے والے
احکام کی معرفت۔

یہ چند باتیں تھیں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ میرے
عمل کو مقبول، خالص اپنی رضا کے لئے، نفع بخش اور بارکت بنائے، وہی اس
کام اک اور اس پر قادر ہے۔

وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آله واصحابہ
اجمعین۔

۱۸/ اگست ۲۰۰۳ء بروز بدھ، بوقت شب۔

فہرست مضمایں

صفحہ نمبر	موضوعات و مضمایں
۳	مقدمہ از مترجم
۷	بسم اللہ الرحمن الرحیم
۷	مقدمہ
۱۱	☆☆ پہلا باب: بکفیر کے چند اصول، ضوابط اور موانع ☆ پہلی فصل: مسلمانوں کے امراء کے خلاف بغاوت کی حرمت اور بھلائی میں ان کی اطاعت کا وجوہ۔
۱۳	پہلا مبحث: بھلائی میں سمع و طاعت کا وجوہ۔
۲۸	دوسرा مبحث: مسلمان حاکم کے خلاف بغاوت کی حرمت۔

۷۵	(۳) جن چیزوں سے جنت قائم ہوتی ہے۔
۷۶	(۲) ہرگناہ سے تکفیر نہ کرنا۔
۷۷	☆ چھپی فصل: تکفیر سے مانع امور۔
۷۷	(۱) جہالت والا علمی۔
۷۸	(۲) خطأ (غلطی)۔
۷۹	(۳) جبر و اکراہ۔
۸۰	(۴) تاویل۔
۸۲	(۵) تقید۔
۸۵	☆ پانچویں فصل: تکفیر کی خطرناکی۔
۸۹	☆ چھٹی فصل: بعض تعریفات و مفہوم۔
۸۹	۱- کفر۔
۹۱	۲- شرک۔
۹۳	۳- الحاد۔
۹۳	۴- نفاق۔

۳۸	تیسرا بحث: حکمت سے وعظ و نصیحت۔
۵۳	چوتھا بحث: مسلم امراء و حکام کے لئے دعا۔
	پانچواں بحث: ائمہ و امراء کے خلاف بغاوت کرنے والے اور ان کے صفات۔
۵۸	☆ دوسری فصل: تکفیر کے چند اصول۔
۶۶	(۱) سنت ہی احکام کی وضاحت کرتی ہے۔
۶۶	(۲) ایمان ایک اساس ہے، اس کی مختلف شاخیں ہیں۔
۶۷	(۳) ایمان قول عمل سے مرکب ہے۔
۶۸	(۴) کفر کی دو قسمیں ہیں: کفر اکبر اور کفر اصغر۔
۷۰	(۵) ایمان کی کسی شاخ کی انجام دہی سے بندہ کا مومن ہونا لازم نہیں آتا، اسی طرح اس کے عکس۔
۷۰	☆ تیسرا فصل: تکفیر کے ضوابط۔
۷۳	(۱) ظاہری حالت پر حکم لگانا۔
۷۳	(۲) شخص معین کی تکفیر میں اختیاط کرنا۔

۱۲۳	☆ اللہ کے ساتھ شرک اور رسول ﷺ کے ساتھ شرک	۹۷	۵- زندقة۔
۱۲۵	☆ کتاب و سنت پر ایمان نہ لانا	۱۰۰	۶- بدعت۔
۱۲۷	☆ ایک ضروری قید	۱۰۷	☆☆ دوسری باب: بکفیر کے باب میں اہل سنت و جماعت کا موقف
۱۳۱	☆ تکفیر کے باب میں اہل سنت کے موقف کا خلاصہ	۱۰۹	☆ پہلی فصل: اہل سنت کا موقف اور ان کی دلیل۔
۱۳۱	☆ اہل تکفیر کی بابت حاکم اور حکوم کا موقف	۱۰۹	پہلا مبحث: اہل سنت و جماعت کا موقف۔
۱۳۱	(الف) حاکم کا موقف	۱۱۰	☆ اہل سنت ہی نجات یافتہ جماعت ہیں۔
۱۳۳	(ب) حکوم کا موقف	۱۱۱	☆ اہل سنت کی وسطیت۔
۱۳۷	دوسری مبحث: اہل سنت کے موقف کی دلیل۔	۱۱۱	☆ اہل تعطیل اور اہل تمثیل کے مابین وسط ہیں۔
۱۳۷	الف: قرآن کریم۔	۱۱۳	☆ وعیدیہ اور مرجنہ کے مابین وسط ہیں۔
۱۵۲	ب: سنت مطہرہ۔	۱۱۳	☆ غالیہ (غلوبسندوں) اور جافیہ (جفا کاروں) کے مابین وسط ہیں۔
۱۵۸	ج: اجماع۔	۱۱۵	☆ سنت کے تمام ابواب میں وسط ہیں۔
۱۵۹	☆ دوسری فصل: کفر کے اقسام اور خطرناک تکفیری امور۔	۱۲۱	☆ معتزلہ اور خوارج کے مابین وسط ہیں۔
۱۵۹	پہلا مطلب: کفر کے اقسام۔	۱۲۲	☆ کفار و قوم کے ہیں:
۱۵۹	پہلا مطلب: وہ کفر جو ملت اسلامیہ سے خارج کر دیتا ہے۔	۱۲۳	☆ کفر کے اسباب

۱۷۶	سوم: جو مشرکوں کو کافرنہ قرار دے یا ان کے کفر میں شک کرے۔	۱۵۹	اول: کفر تکذیب (جھٹلانے کا کفر)۔
	چہارم: جو یہ عقیدہ رکھے کہ نبی کریم ﷺ کے علاوہ کسی کا	۱۶۰	دوم: تصدیق کے ساتھ تکبیر و انکار کا کفر۔
۱۷۶	طریق آپ کی ہدایت سے زیادہ کامل و مکمل ہے۔	۱۶۰	سوم: شک کا کفر یہ سوچ و مگان کا کفر ہے۔
۱۸۲	چشم: جو رسول ﷺ کی لائی ہوئی کسی چیز سے بغض رکھے۔	۱۶۲	چہارم: اعراض و پہلو تہی کا کفر۔
۱۸۵	ششم: جو رسول اللہ کے دین میں سے کسی چیز کا مذاق اڑائے۔	۱۶۲	چشم: نفاق کا کفر۔
۱۸۵	ہفتم: جادو اور اسی قبلی سے صرف اور عطف بھی ہے۔	۱۶۳	دوسرامطلب: وہ کفر جو ملتِ اسلامیہ سے خارج نہیں کرتا۔
۱۸۶	ہشتم: مشرکین کا سپورٹ اور مسلمانوں کے خلاف ان کی مدد کرنا۔	۱۶۵	دوسرامبحث: اسلام کو توڑنے اور اس میں نقش پیدا کرنے والے امور۔
	نہم: جو یہ عقیدہ رکھے کہ بعض لوگوں کو محمد ﷺ کی شریعت	۱۶۵	پہلامطلب: خلاف ورزیوں کی قسمیں۔
۱۸۷	سے نکلنے کا اختیار ہے۔	۱۶۵	پہلی قسم: جوارتا دکی موجب ہے۔
	وہم: اللہ کے دین سے اعراض کرنا، بایں طور کہ نہ اسے سیکھے	۱۶۵	دوسری قسم: جوارتا دکی موجب نہیں لیکن اسلام میں نقش پیدا کرتی ہے۔
۱۸۷	اور نہ ہی اس پر عمل کرے۔	۱۶۶	دوسرامطلب: خطرناک اور بکثرت واقع ہونے والے نوافض اور تکفیری امور۔
۱۸۸	تیسرا مطلب: نفاق کی قسمیں۔	۱۶۷	اول: شرک۔
۱۸۸	اولاً: نفاق اکبر	۱۶۷	دوم: جواپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان واسطے بنائے۔
۱۹۲	ثانیاً: نفاق اصغر	۱۷۶	

۲۵۰	چوتھا مبحث: مرجحہ کی رائے۔
۲۵۵	☆ دوسری فصل: گمراہ فرقوں (کے آراء) کا جائزہ۔
۲۵۵	پہلا مبحث: خوارج کا جائزہ۔
۲۶۷	دوسرा مبحث: معتزلہ کا جائزہ۔
۲۷۳	تیسرا مبحث: شیعہ کا جائزہ۔
۲۸۲	چوتھا مبحث: مرجحہ کا جائزہ۔
۲۸۹	خاتمه: اہم نتائج اور ثمرات
۲۹۵	فہرست موضوعات

مکاتبۃ الکتبۃ الکتبۃ

[]

۱۹۵	چوتھا مطلب: قبروں کے پاس انجام دیجانے والی بدعاات
۱۹۵	پہلی قسم: میت (مردے) سے حاجت براری کا سوال کرنا۔
۱۹۷	دوسری قسم: میت کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا۔
۱۹۸	تیسرا قسم: کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ قبروں کے پاس دعائیں... تیسرا مبحث: تکفیری امور کی بنیادیں۔
۲۰۱	۱- قول کے سبب ارتداد
۲۰۲	۲- فعل کے سبب ارتداد
۲۰۹	۳- عقیدہ کے سبب ارتداد
۲۱۶	۴- شک و شبہ کے سبب ارتداد
۲۲۳	☆ تیسرا باب: اہل قبلہ کی تکفیر میں لوگوں کے موافق اور ان کا جائزہ
۲۲۵	☆ پہلی فصل: تکفیر کے باب میں لوگوں کے موافق۔
۲۲۵	پہلا مبحث: خوارج کی رائے۔
۲۳۱	دوسرा مبحث: معتزلہ کی رائے۔
۲۳۸	تیسرا مبحث: شیعہ کی رائے۔